

الصلوٰى علیٰ حبیس

حضرت مولانا سید مفتی محترم صاحب مختلق کر رونمایش شرف

خطیفہ مجاز برکاتہ اصر شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد ذکریا نجمی
نور اللہ مرنعہ

جمع و ترتیب

حضرت مولانا مفتی عصمت اللہ صاحب زید مجده

تحمیل و تعلیق


حضرت مولانا مفتی سید شاہ اسلام صاحب زید مجده



نام کتاب اصلاحی مجالس
 مصنف حضرت مولانا مفتی سید محترم الدین شاہ صاحب
 طبع اگست ۲۰۱۰ء
 باہتمام دارالایمان راولپنڈی
 قیمت ۔۔۔۔۔

ملنے کے پتے

- ۱۔ دارالایمان نزد مسجد صدقیق اکبرالہ آباد دیشترنج 3 راولپنڈی
0321-2032856 _____ 0323-5530047
- ۲۔ مکتبہ رشید یہ راجہ بازار راولپنڈی
- ۳۔ جامعہ زکریا دارالایمان کربونگہ شریف ضلع ہنگو 0925-662313
- ۴۔ جامع مسجد مومن، صاحبزادہ گل روڈ بائزہ شاپ صدر پشاور
0300-5980769
- ۵۔ ادارہ اسلامیات انا رکھی اردو بازار لاہور
- ۶۔ الخیل پبلیشورز کمپنی چوک راولپنڈی
- ۷۔ مکتبۃ الشیخ بہادر آباد کراچی



فهرست

۱۶	پہلی مجلس	۱
۱۶	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کو تمام محبتوں پر عالم کر لیں	۲
۱۷	اللہ سے محبت کا مفہوم	۳
۱۸	آپ ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے	۴
۱۸	محبت عارضی اور محبت حقیقی میں فرق	۵
۱۹	ایک صحابی رسول ﷺ کا عشق رسول ﷺ	۶
۲۰	حضرور ﷺ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے اسباب	۷
۲۱	حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سفر عمرہ کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ	۸
۲۲	آثار رسول ﷺ متعلق سعودی حکومت کی نامناسب پالیسی	۹
۲۳	عقیدہ اور عقیدت دونوں درست رکھیں	۱۰
۳۰	مبارک اور مبارک کا فرق یاد رکھیں!	۱۱
۳۲	دوسری مجلس	۱۲
۳۲	دواام عمل کی برکتیں	۱۳
۳۳	بعض اعمال پر آپ ﷺ کی مداومت نہ فرمانے کی حکمت	۱۴
۳۳	لطیفہ: ”سو نے والوں کے فرائض ہوتے ہیں۔“	۱۵
۳۴	دواام عمل سے نتائج برآمد ہوتے ہیں	۱۶

۳۶

۱۷ دوامِ عمل سے استقامت نصیب ہوتی ہے

۳۶

۱۸ دوامِ عمل کے فائدے کی دو حصی مثالیں

۳۶

۱۹ ایک عام غلط فہمی کا ازالہ

۳۷

۲۰ دوامِ عمل غیر محسوس طور پر پراش کرتا ہے

۳۸

۲۱ دوامِ عمل کو حاصل کرنے کا طریقہ

۳۸

۲۲ ایک پستو کہاوت کا قصہ

۴۰

تیسرا مجلس

۴۰

۲۳ ”خوف“ انسان کے لیے مفید ہے

۴۱

۲۵ وہ خوف مفید ہے جو اعتدال کے درجے کا ہو

۴۱

۲۶ ٹینشن اور ذپریشن کی حقیقت اور اس کا آسان ترین علاج

۴۳

۲۷ غیر ضروری خوف کے نقصان دہ ہونے کی ایک فرضی مثال سے دلچسپ وضاحت

۴۳

۲۸ خوف زائل کرنے کا طریقہ

۴۵

چوتھی مجلس

۴۵

۳۰ بذریانی اور بدگمانی سے بچنے

۴۷

۳۱ لقمان حکیم“ کا ایک واقعہ

۴۹

۳۲ طعنہ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے

۵۰

۳۳ ہمیشہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں

۵۱

۳۴ واقعہ

۵۳

پانچویں مجلس

۵۳

۳۶ انسانی روح کی حقیقت

اصلاحی مجالس

۵۳	۳۷ انسان روح اور نفس سے مرکب ہے
۵۴	۳۸ ”ہمارا قوم مذکور ہے“ والا لطیفہ
۵۶	۳۹ ڈارون کا ”نظریہ ارتقاء“ غلط ہے
۵۷	۴۰ مجھوں اور اس کی اٹھنی کی آنکھ پھولی کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ
۶۰	چھٹی مجلس ۴۱

۶۰	۴۲ ہمیشہ طالب بن کر رہیں، کامل نہ بنتیں!
۶۰	۴۳ اللہ تعالیٰ طلب والوں کو دیتے ہیں
۶۳	۴۴ حق تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں
۶۳	۴۵ واقعہ
۶۳	۴۶ واقعہ
۶۶	ساتویں مجلس ۴۷

۶۶	۴۸ دل کی آنکھ مجاہدے سے کھلے گی
۶۶	۴۹ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پاسکتیں
۶۷	۵۰ ایک عاشق اور ایک گھرے کی گفتگو

۶۹	آٹھویں مجلس ۵۱
۶۹	۵۲ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور ایک غلط اور بے بنیاد واقعہ
۶۹	۵۳ انبیاء کرام علیہم السلام کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے
۷۲	۵۴ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فنا فی اللہ ہونا دیکھیے
۷۵	۵۵ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور اس غلط واقعہ کے غلط ہونے کی نقلی اور عقلی وجہات

نویں مجلس

- | | |
|----|--|
| ۷۸ | ۵۷ ہمیشہ ثابت اور تعمیری سوچ رکھا کریں |
| ۷۸ | ۵۸ سوچ کے اعتبار سے لوگ و مطرح کے ہیں |
| ۷۸ | ۵۹ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ کی بیماری کا ایک سبق آموز واقعہ |
| ۷۹ | ۶۰ پیر مسروت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ |
| ۷۹ | ۶۱ ایک معذور شخص کی عجیب شکر گزاری |
| ۸۱ | ۶۲ ثابت سوچ کا فائدہ اور منفی کا نقصان |
| ۸۲ | ۶۳ بدگناہی کیا ہوتی ہے |
| ۸۲ | ۶۴ بطور مثال ایک واقعہ |
| ۸۳ | ۶۵ خانہ بدوشوں کے پر سکون رہنے کا راز |

دسویں مجلس

- | | |
|----|--|
| ۸۶ | ۶۶ یہود و نصاریٰ کی ایک حالت کا بیان |
| ۸۶ | ۶۷ چھوٹو شہیدوں کے ثواب والے اشتہار کا قصہ |
| ۸۸ | ۶۸ احادیث شریفہ میں وارد الفاظ "سنّت" متعلق ایک اہم اصول |
| ۸۹ | ۶۹ گیارہویں مجلس |
| ۹۲ | ۷۰ لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں |
| ۹۲ | ۷۱ انسان اگر لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے بچے تو بہت کچھ پاسکتا ہے |
| ۹۶ | ۷۲ نماز میں آنے والے وساوس و خیالات کا آسان اور مختصر ترین علاج |
| ۹۷ | ۷۳ خلاف واقعہ مبالغہ آرائی سے بھی بچنا چاہئے |

پارہویں مجلس

۹۹

۷۶ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق افراط و تفریط پر منی غلط عقائد

۹۹

۷۷ بعض لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں

۱۰۲

۷۸ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق یہ کہنا کہ وہ مٹی ہو گئے ہیں درست نہیں
ہے

۱۰۳

۷۹ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں میں اعلیٰ ترین اور اکمل ترین انسان ہیں

۱۰۵

۸۰ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ

۱۱۰

۸۱ فرعون کے جسم کو پا قی رکھنے کی حکمت

۱۱۰

۸۲ بطورِ مثال ایک واقعہ

۱۱۲

تیرہویں مجلس

۸۳

۱۱۲

۸۳ رہبانیت اور ترذکیہ میں فرق

۱۱۲

۸۵ آپ آداب سے کھیں

۱۱۳

۸۶ رہبانیت اور ترذکیہ میں فرق

۱۱۳

۸۷ غیر اللہ کی محبت دل سے نکالنے کا مطلب

۱۱۵

چودہویں مجلس

۸۸

۱۱۵

۸۹ انسان کو پیش آنے والی مصیبتوں کے فوائد اور ان کی حکمتیں

۱۱۵

۹۰ انسانی صلاحیتیں حرکت اور عمل سے پیدا ہوتی ہیں

۱۱۶

۹۱ مصیبتوں میں جتنا لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں

۱۱۷

۹۲ غزوہ احمد میں ظاہری شکست کی حکمتیں

۱۱۹

۹۳ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جا ب نہیں بن سکتی

۱۲۱	پندرہویں مجلس	۹۳
۱۲۱	۹۵ ادب کو لازم پکڑیں	
۱۲۱	۹۶ بے ادب محروم ہوتا ہے	
۱۲۲	۹۷ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا ایک واقعہ	
۱۲۲	۹۸ اذان کے ادب و احترام کی برکت	
۱۲۳	سو ہویں مجلس	۹۹
۱۲۳	۱۰۰ اپنی بیویوں پر صبر کریں	
۱۲۳	۱۰۱ شاہ ایو احسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ	
۱۲۵	۱۰۲ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو واقعات	
۱۲۸	سترہویں مجلس	۱۰۳
۱۲۸	۱۰۴ ذکر اللہ کی کثرت سمجھے	
۱۲۸	۱۰۵ ایک مرید دوچیر	
۱۳۰	۱۰۶ اسماء الحسنی کے فوائد	
۱۳۲	۱۰۷ یہماری ہو یا کسی مخلوق کا ڈر ہوتا یہ پڑھیں	
۱۳۲	۱۰۸ لفظ ”اللہ“ کہتے وقت یہ تصور کر لیا کریں	
۱۳۲	۱۰۹ اسم اعظم سیکھنے والے ایک شخص کا واقعہ	
۱۳۳	اٹھارہویں مجلس	۱۱۰
۱۳۳	۱۱۱ تصوف کی چند اصطلاحات	
۱۳۳	۱۱۲ سالک کے کہتے ہیں	

۱۳۲	۱۱۳ "وصال" کا مطلب
۱۳۲	۱۱۴ چند شبہات کا ازالہ
۱۳۵	۱۱۵ بسط کی تعریف
۱۳۶	۱۱۶ قبض کی تعریف

انیسویں مجلس

۱۳۸	۱۱۷ بدمگانی کے اسباب اور اس کا علاج
۱۳۸	۱۱۸ بدمگانی کے کہتے ہیں
۱۳۹	۱۱۹ بدمگانی کی وجوہات
۱۳۹	۱۲۰ طوٹے کا واقعہ
۱۴۰	۱۲۱ بدمگانی کے نقصانات
۱۴۱	۱۲۲ بدمگانی کا علاج

بیسویں مجلس

۱۴۲	۱۲۳ حضور ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے
۱۴۲	۱۲۴ آپ ﷺ کی بے ادبی کا انجمام
۱۴۲	۱۲۵ ایک شیطانی چال
۱۴۳	۱۲۶ ایک سبق آموز واقعہ

اکیسویں مجلس

۱۴۶	۱۲۷ صاحبزادگان سے خطاب
۱۴۶	۱۲۸ صاحب زادہ کا مطلب
۱۴۷	۱۲۹ بڑوں کی اولادیں عموماً محروم ہوتی ہیں

۱۳۸	۱۳۳ صاحبزادگان کو ایک مشورہ
۱۳۹	۱۳۲ اعتکاف کے چند ضروری مسائل
۱۴۱	۱۳۵ باکیسویں مجلس
۱۴۱	۱۳۶ احکام الہی کے درجات کی حکمتیں
۱۴۱	۱۳۷ ایک عام غلط فہمی
۱۴۲	۱۳۸ پچ عاشق کا ندہب
۱۴۳	۱۳۹ تیکسویں مجلس
۱۴۳	۱۴۰ اللہ کا قرب قربانی سے ملے گا
۱۴۳	۱۴۱ قربانی کیا ہے
۱۴۵	۱۴۲ حقیقی آزادی
۱۴۵	۱۴۳ ایک سبق آموز واقعہ
۱۴۷	۱۴۴ ہر کام انہاک سے کریں
۱۴۸	۱۴۵ چوبیسویں مجلس
۱۴۸	۱۴۶ ہدیہ سے متعلق چند ضروری باتیں
۱۴۸	۱۴۷ ایک واقعہ
۱۴۹	۱۴۸ بعض ہدیے رشوت ہوتے ہیں
۱۵۰	۱۴۹ ایک پیر کے مرید کا عجیب خواب
۱۵۱	۱۵۰ پچھیسویں مجلس
۱۵۱	۱۵۱ کسپ حلال بھی بھی نہ چھوڑیں

۱۶۱	۱۵۲ ایک شیطانی فریب
۱۶۱	۱۵۳ ناقص توکل کے نقصانات
۱۶۲	۱۵۴ ایک سبق آموز واقعہ
۱۶۳	۱۵۵ چھبیسیوں مجلس
۱۶۴	۱۵۶ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے
۱۶۴	۱۵۷ ایک سبق آموز واقعہ
۱۶۶	۱۵۸ جب ہوس آتی ہے تو حقیقت چھپ جاتی ہے
۱۶۸	۱۵۹ واقعہ سے مانخوا سبق
۱۶۹	۱۶۰ ستائیسیوں مجلس
۱۶۹	۱۶۱ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو اپنا مقصود اصلی بنا کیں ایک پادشاہ اور اس کے وزیر کا دلچسپ قصہ
۱۷۲	۱۶۲ واقعہ سے حاصل شدہ سبق
۱۷۳	۱۶۳ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ نما مثال
۱۷۵	۱۶۴ واقعہ سے حاصل شدہ سبق
۱۷۵	۱۶۵ دوست تین قسم کے ہوتے ہیں
۱۷۶	۱۶۶ ایک دوست کی جہالت کا واقعہ
۱۷۷	۱۶۷ نمازوں لے جاہل کا واقعہ
۱۷۹	۱۶۸ ایک عالم نما جاہل کا واقعہ
۱۸۰	۱۶۹ اٹھائیسیوں مجلس
۱۸۰	۱۷۰ ذکر اللہ کی اہمیت

۱۷۱	شیطان ذکر سے انسان کو غافل کرتا ہے
۱۷۲	میرگرامی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ
۱۷۳	۱ شرعی اصطلاحات خراب نہ کریں
۱۷۴	چند شیطانی وساوس
۱۷۵	۱ مجنون کا ایک واقعہ
۱۷۶	۱ ذکر بہر حال مفید ہی ہے
۱۷۷	۱ ایک نادان صوفی کا واقعہ
۱۷۸	۱ ثمرات ذکر کی حفاظت کریں
۱۷۹	۱ اشیسوں میں مجلس
۱۸۰	۱ عیید ضرور منائیں لیکن تحقیق کے بعد
۱۸۱	۱ بلا تحقیق بات نہ کریں
۱۸۲	۱ تحقیق نہ کرنے کا نقصان
۱۸۳	۱ علماء کرام حضرات سے درخواست
۱۸۴	۱ نفس اور شیطان سے کبھی بھی غافل نہ رہیں

عرضِ ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعده!

زیرنظر کتاب حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ان اصلاحی مواعظ و مفہومات پر مشتمل ہے جو کہ حضرت اقدس نے اپنی خانقاہ ”دارالایمان والتقویٰ“ میں ۲۰۰۸ء کے رمضان المبارک کے موقع پر سالکین و طالبین کی اصلاح اور راہنمائی کے لئے ارشاد فرمائے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت قطب الاقطاب ریحانۃ الدہر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدینی توراللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز اور ہزاروں طالبین حق کے مرشد و مقتدا ہیں وہ اپنے آبائی علاقے کر بونگہ شریف (جو کہ ضلع ہنگو کی تحصیل دوآبہ کے مضائقات میں ہے) میں طالبین و سالکین کی اصلاح اور تعمیر و ترقی میں شب و روز کوشش ہیں۔

حضرت کی خانقاہ میں سال بھر پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے دوست و احباب صرف اور صرف اپنی اصلاح اور کامل دین کی اتباع توحید خداوندی کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ ہر آن، ہر گھری اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دھیان اور استحضار سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن و آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا عشق اور آنحضرت ﷺ کی کامل اتباع سیکھنے کے لئے آتے ہیں۔

الحمد للہ یہاں سارا سال ایک جامع نصاب تعلیم کے تحت سالکین و طالبین ہدایت کے لئے عقائد و اخلاق مسائل و حقوق آداب کی تعلیم دی جاتی ہے اور خصوصاً اصلاح نفس اور اخلاقیات کی تعلیم حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم بنفس تقیس فرماتے ہیں انتہائی سادہ مگر اخلاص ولذیت سے بھر پور ارشادات جہاں دلوں کی اجڑی بستیوں کو ایمان و تقویٰ کے شرات سے مزین

وآر است کرتے ہیں وہاں تشکیل علم کی الجھی ہوئی گھنٹیاں بھی سلبھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ معارف وحقائق کے ان بہتے ہوئے دریا سے سیراب ہونے والوں کی عرصہ دراز سے یہ کوشش اور خواہش رہی ہے کہ حضرت کی مجالس کو ضبط کر کے عوام الناس تک طباعت کی صورت میں پہنچایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔

اللہ تعالیٰ جزاً خیر عطا فرمائے جناب حضرت مفتی عصمت اللہ صاحب دامت برکاتہم کو جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ حضرت کی ان اصلائی مجالس کو جمع کر کے ترتیب دیا اور حضرت مفتی شاہ اسلام صاحب مدظلہ نے تحریک کر کے اس کتاب کی خصوصیت میں مزید اضافہ کیا اور اللہ تعالیٰ حضرت کے صاحبزادہ مفتی زیر شاہ صاحب دامت برکاتہم کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جو حضرت کی دیگر تصانیف اور علمی کاموں کی تکمیل و طباعت کے ساتھ ساتھ خصوصاً اس کتاب کی تیاری میں بھی گرانی فرماتے رہے۔

یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اس کتاب کی تیاری میں مرتب اور ادارہ کے پیش نظر یہ بات رہی ہے کہ جہاں حضرت کے قیمتی ارشادات لوگوں تک پہنچ سکیں وہاں حضرت کی شخصیت کا تعارف اور ان کی مجالس کے رنگ کی بھی کچھ منظر کشی ہو سکے اور پڑھنے والا اپنے آپ کو اس مجلس سے جدا نہ سمجھے اور صحیح طریقے سے مستفید ہو سکے ہم اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قارئین کرام ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائیں اور تمام امت مسلمہ کے لئے اسے نافع بنائیں اور ہم سب کا خاتمه ایمان پر فرمائیں۔ آمين

والسلام

ظہور احمد عباسی

۲۳ رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ

بمطابق ۱۵ اگست ۲۰۱۰ء

پہلی مجلس

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لیں

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلَیْ رَسُولِهِ الْکَرِیمِ اَمَا بَعْدُ!

اللَّهُرَبُ الْعَالَمِینَ جَلَ جَلَالَهُ قُرْآنَ كَرِیمَ کی سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں:

قُلْ إِنَّمَا كَانَ أَبْيَأُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ
نَفَرَتْ فَتَمُوا هَا وَتَجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا خَتْنَى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَسِيقِينَ (التوبہ: ۲۳)

(مندرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیں! کہ اگر تمہیں تمہارے آپا و اجداد اور تمہارے بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور نواسے اور تمہارے بھائی اور بچپا اور تمہاری برادری اور رشتہ داریاں اور تمہاری تجارت، ایسی تجارت جس کے بند ہونے کا (تمہیں) اندیشہ ہو اور ایسے گھر جو تمہیں محبوب ہیں (بعض مرتبہ انسان گھر سے شگ ہوتا ہے، لڑائیاں اور بھگڑے ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے اور ہر سے چلاہی جاؤں تو آیت مذکورہ میں ایسے گھر کا ذکر نہیں ہے جس سے آدمی پریشان ہو بلکہ وہ گھر مراد ہے جو آدمی کو پسند ہو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا کی وہ تمام چیزوں جو انسان کو نبنتا دوسری چیزوں کے زیادہ پسند ہوتی ہیں مختصر سیست کر کے بیان فرمانتے کے بعد فرمایا:)

"(اگر یہ ساری چیزیں) تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول ﷺ سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں (تو ایسی صورت میں تم اللہ کے راستے سے بھکنے والے ہو گے) تو تم انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا (تم گمراہ ہو جاؤ گے تم فاسق ہو جاؤ گے) اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔" (توبہ آیت ۲۲)

اللہ سے محبت کا مفہوم

اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات، اس کی ہدایات اور اس کے شعائر یعنی اس کے نام سے لگی ہوئی چیزوں سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو نظر نہیں آتے کہ آدمی اس سے جا کر گلے مل جائے کہ واہ! واہ! ماشاء اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں ان چیزوں سے محبت کی جائے۔ اس بات کو یاد رکھیں! کیوں کہ اس معاملہ میں لوگ بہت بڑے مغالطے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دوسری چیزوں میں کیا رکھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہم کیسے پہچانیں گے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ پیمانہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے محبت ہو، ان پر چلننا ہو، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ ہمیں محبوب ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہو وہ ہمیں بھی مبغوض ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ آیت مذکورہ میں "وجہاد فی سبیلہ"، بھی فرمایا گیا ہے (جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ مال، اولاد، گھر یا اور رشتہ داریاں وغیرہ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہوں تب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو) جہاد کرنا اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ جو شخص اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے تو یہی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر اس کے راستے میں کوئی ظاہری دشمن کا فرحاں ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ قتال کرے گا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو معلوم ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت ہے، اور اگر (وقت آنے پر) اللہ کے

راستے میں جہاد نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی ہے۔ بہر حال آج میں صرف نبی کریم ﷺ کی محبت سے متعلق بات کروں گا۔

آپ ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے

آپ ﷺ کی محبت (ایمان کا حصہ ہے) یہ شرط ایمان ہے۔ مذکورہ آیت میں دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بعد کس کا نام آیا؟ رسول اللہ ﷺ کا نام آیا ہے ”أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ نیز آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے (آبا و اجداد سے) اور اس کے بیٹوں سے (بچوں سے، اولاد سے) اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“ ۱

مطلوب یہ ہے کہ اگر یہ آبا و اجداد اس قدر محبوب ہیں کہ ان کی وجہ سے حضور ﷺ کو ناراض کرتا ہے یعنی آپ ﷺ کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ ﷺ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ ﷺ سے گویا زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے (اور یہی چیز نقسان وہ ہے)۔

محبت عارضی اور محبت حقیقی میں فرق

ایک محبت عارضی محبت ہے وہ تو انسان کو بھی (اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ماسوادگیر چیزوں مثلاً مال اولاد وغیرہ سے بھی) ہو جاتی ہے اور ایک حقیقی محبت ہے جس کو عقلی محبت بھی کہتے ہیں حقیقی اور عارضی محبت کا پتہ مقابلے میں چلتا ہے مثلاً نبی کریم ﷺ کی سنت کے ساتھ تمہارے

۱۔ أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ ج ۱ ص ۷ كِتَابُ الْإِيمَانِ: بَابُ حُبِ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ وَمُسْلِمٍ
ج ۱ ص ۲۹ كِتَابُ الْإِيمَانِ: بَابُ وُجُوبِ مَحْبَةِ رَسُولِ ﷺ وَفِي رَوَايَةِ احْبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ
وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. كِتَابُ الْإِيمَانِ وَشَرَاعِهِ بَابُ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ.

باپ یا بیٹے کا مقابلہ ہو جائے اب تم کس کو ترجیح دیتے ہو، اسی طرح مثلاً: سنت کے مقابلے میں کھیتی آگئی، یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں زمین آگئی، مال آگیا، دولت آگئی۔ اب اگر یہ (مذکورہ) چیزیں تم اس وقت قربان نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت (اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے زیادہ ہے جو کہ سخت نقصان کی بات ہے) اور اگر (مقابلے کے وقت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم پر ان) چیزوں کو قربان کر سکتے ہو تو پھر (یہ چیزیں) نقصان دنہیں ہیں۔

ایک صحابی رسول ﷺ کا عشقِ رسول ﷺ

ایک صحابی ہیں انہیں ایک مرتبہ بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اوہ ہونبی کریم ﷺ تو جنت میں بہت بڑے اعلیٰ درجات پر ہوں گے، اگر ہمیں اللہ جل جلالہ نے جنت نصیب بھی فرمادی تب بھی نبی کریم ﷺ (بڑے درجات پر) کہیں اور ہوں گے (اور) ہم (نچلے درجات پر) کہیں اور ہوں گے، پھر تو ہم نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھ سکیں گے (یہ سوچ کر) انہیں رونا آیا (اور وہ سوچنے لگے کہ) ہم تو محروم ہی ہو گئے۔ بس وہ نبی کریم ﷺ کے دروازے پر روتے ہوئے بیٹھ گئے نبی کریم ﷺ جب باہر تشریف لائے تو (انہیں روتا ہوا دیکھ کر) دریافت فرمایا: کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بس یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ہم آپ ﷺ کو (یہاں دنیا میں) ایک دن نہ دیکھیں تو ہمارے لئے گویا کہ قیامت بن جاتی ہے، تو جنت میں تو آپ ﷺ بہت اعلیٰ درجات پر ہوں گے اور ہم کہیں اور ہوں گے تو ہم کیسے آپ ﷺ کو (ہر وقت) دیکھ سکیں گے۔ نبی کریم ﷺ نے (انہیں تسلی دیتے ہوئے) فرمایا:

المرء مع من احب

۱۔ اخرجه البخاری ج ۲ ص ۹۱ کتاب الأدب: باب علامۃ الحب فی الله۔ ومسلم ج ۲ ص ۳۳۲ کتاب البر والصلة۔ وآخرجه البخاری ومسلم من حدیث انس بن علی ان أعرابیا قال رسول الله ﷺ متى الساعة؟ قال له رسول الله ﷺ ما أعددت؟ قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحبت.

”آدمی (قیامت کے دن) اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے (دنیا میں) محبت ہو۔“
 بھائیو! آپ دیکھ لیں کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے لہذا آپ نیک اور اچھے لوگوں کے
 ساتھ محبت رکھیں! مجاہدین کے ساتھ محبت رکھیں، مبلغین کے ساتھ محبت رکھیں، علماء کرام سے
 محبت رکھیں، ان شاء اللہ سب کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔

حضرت ﷺ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے اسباب

نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت رکھنا یہ شرط ایمان ہے۔ اس کے بڑھانے کے مختلف اسباب ہیں۔
 (۱) پہلی بات یہ کہ نبی کریم ﷺ کی (مبارک) سنتوں پر عمل کریں اب اس کے لئے کوئی
 جذبہ بھی ہونا چاہئے جو آپ کو عمل پر ابھارے اس جذبے کے لئے نبی کریم ﷺ کی سیرت (طیبہ)
 کا مطالعہ کریں، آپ ﷺ کے شائق و اخلاق کو پڑھا کریں اس سے نبی کریم ﷺ کے (مبارک)
 اخلاق آپ (لوگوں) پر کھلیں گے جس سے آپ حضرات کو اتباع بھی نصیب ہو جائے گی اور آپ
 کے دل کے اندر نبی کریم ﷺ کی محبت بھی بیٹھ جائے گی۔

(۲) دوسری بات یہ کہ نبی کریم ﷺ کے لئے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، درود شریف
 نبی کریم ﷺ کے لئے دعا ہے (اس لئے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں) امت کے لئے
 بھی دعائیں کریں اس طرح اور بھی اسباب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے
 آثار کے ساتھ محبت کریں، بعض لوگوں کو آثار کے معاملہ میں بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب دامت بر کاظم العالیہ کے

سفر عمرہ کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ

ایک واقعہ آپ کو نہ تھا ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں عمرہ ادا کرنے چلا گیا، عمرے کے موقع پر غار حرا پر شکم ہوتا ہے پھر گرمی کے موسم میں تو رش ہوتا ہی نہیں۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا ظہر کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں غار حرا جاؤں کیوں کہ (میں نے سوچا کہ) یہ ایسا وقت ہے کہ کوئی ہو گا بھی نہیں (کیوں کہ) گرمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں جلدی سے عصر کی نماز میں مسجد حرم واپس آ جاؤں گا۔ (چنانچہ) میں چلا گیا، مشکل سے میں وہاں پہنچ گیا، بہت مشکل کے ساتھ میں پہنچا راستہ بہت بگڑا ہوا تھا لیکن راستے میں مجھے یہ خیال آتا گیا کہ یا اللہ تو نے نبی کریم ﷺ کے دل میں کیسی محبت اور کیا عشق رکھا تھا اس وقت کے راستے (تو بہت ہی زیادہ کسپری والی حالت میں ہوتے ہوں گے آج کے راستوں کے بُنُبُت پھر بھی آپ ﷺ اس غار میں تشریف لاتے تھے) اب تو راستے بن گئے ہیں۔ اور پھر (میں نے سوچا کہ) ہم (حرم علی) سے یہاں (پہاڑ کے دامن) تک گاڑی میں آ گئے ہیں (پھر بھی ہمیں اتنی مشقت ہو رہی ہے) جبکہ نبی کریم ﷺ تو اپنے گھر (مبارک) سے ہی پیدل تشریف لاتے تھے جبکہ (آپ ﷺ کے گھر سے لے کر اس پہاڑ کے دامن تک) بذاتِ خود ایک بھی مسافت ہے پھر پہاڑ کے دامن سے غار حرا تک کا راستہ ایک اور سفر ہے اور سوچا کہ نبی کریم ﷺ کئی کئی ہفتے اور تیس تیس دن، بیس بیس دن یہاں گزارتے تھے اور آپ کے پاس صرف کھجوریں اور کھانے کی خشک چیزوں ہوتی تھیں یہ کیسا عشق ہے اللہ کا کہ آپ ﷺ اللہ کی محبت میں گم ہو گئے تھے۔ کتنے حیران تھے اللہ کے عشق میں کیسی محبت ان کو ہو گئی تھی۔ یہ تصور آیا دیکھیں! اگر پہاڑ پر میں نہ جاتا تو یہ تصور مجھے نہیں آ سکتا تھا۔ لہذا ان چیزوں کی وجہ سے شرکیہ افعال نہیں کرنے چاہئے بلکہ ان چیزوں سے عبرت لینی چاہئے۔

آثار رسول ﷺ سے متعلق سعودی

حکومت کی نامناسب پالیسی

جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچا، بہر حال بڑی مشکل سے پہنچا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فضل فرمایا کہ میں وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک کیبن لگائی ہے اس کیبن میں کچھ لوگوں کو حکومت ہی نے متعین کیا ہے تاکہ وہ (آنے والے) لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ پہاڑ پر آنا بدعت ہے آپ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں اب تو شاید کم بناتے ہیں پہلے بہت سختی کرتے تھے اب انہیں بھی فکر ہو گئی ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کیوں کہ بار بار لوگوں نے انہیں سمجھایا۔ با تین وہاں پہنچ گئی ہیں کیوں کہ علماء حضرات وہاں کی حکومت کو بتاتے ہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں۔ بہر حال جب ہم وہاں (کیبن کے پاس) پہنچ گئے تو انہوں نے حسب دستور مجھے بھی کہہ دیا کہ تم پہاڑ پر آگئے ہو؟ پہاڑوں میں کیا رکھا ہے۔ اور پہاڑوں پر آنا مشرع نہیں بلکہ بدعت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بدعت کیوں ہے؟ آپ مجھے بدعت کی تعریف بتادیں کہ یہ کیوں بدعت ہے۔ اس نے کہا کہ پہاڑوں پر جانے میں اگر کوئی کہے کہ اس میں ثواب ہے (تب تو بدعت ہے) میں نے ان سے کہا ثواب کو چھوڑیں کیوں کہ ثواب تو نیت کی بات ہے اب کوئی نیت کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے۔ کیا ان پہاڑوں پر جانے والے بدعت کرتے ہیں، کوہ طور پہاڑ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے تھے پہاڑ ہی سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ایک عزت بخشی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمادی۔

خود جی کریم ﷺ یہاں تشریف لاتے تھے، کئی کئی ہفتے گزارتے تو کیا جی کریم ﷺ بدعت کا ارتکاب کرتے تھے؟ اس بات پر وہ (عرب) تھوڑا سا میرے ساتھ الجھا کہ وہ تو نبوت سے پہلے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نبوت سے پہلے تھا تو نبوت انہیں ملی کہاں سے؟ وہ کون ہی جگہ تھی

جہاں پر آنحضرت ﷺ کو نبوت ملی؟ اسی جگہ سے (انہیں) نبوت ملی ہے۔ کیا بدعات کے ارتکاب میں نبوت ملتی ہیں پھر یہ بات بھی درست نہیں کہ نبوت کے بعد آپ ﷺ کبھی حراء میں نہیں آئے بلکہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ آپ ﷺ بعثت کے بعد بھی غارِ حراء آتے تھے۔ بہر حال پھر میں نے ان سے شکایت کی کہ مجھے آپ سے اور آپ کی حکومت سے ایک شکایت ہے اور اس شکایت میں میں تنہ انہیں ہوں بلکہ بہت سارے علماء کرام کو یہ تشویش ہے کہ آپ کی حکومت آثار رسول ﷺ کو مٹاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آثار میں کیا رکھا ہے؟

میں نے کہا کہ آثار میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے کرتے کو عبد اللہ بن ابی منافق کے ساتھ فتن کیا گیا لیکن اس کرتے نے عبد اللہ بن ابی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوال واقعی ٹھیک ہی تھا، میں آپ کے سامنے پوری بات لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آخر لوگ کیسے کیسے مغالطے دیتے ہیں۔ ہمیں کن کن حریوں کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ انہیں یہی سبق پڑھایا گیا تھا (اس لئے انہوں نے یہی سوال کیا) میں نے انہیں بتایا کہ اگر اس کرتے کے ساتھ عبد اللہ بن ابی کو محبت ہوتی تو اللہ پاک اس کے لئے کوئی سبیل نکال لیتے، یہی محبت اس کا بیٹر اپار کرتی۔ لیکن اس کو تو نبی کریم ﷺ کے کرتے سے بعض تھا، بعض سے حمیتیں نہیں آتیں، حمیتیں محبت سے آتی ہیں۔ میں یہیں کہتا کہ خود ان چیزوں کے اندر کوئی کمال ہے بلکہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ یعنی نیکوکاروں کی محبت رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔

عقیدہ اور عقیدت دونوں درست رکھیں

اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں، اور عقیدت بھی ٹھیک رکھیں۔ ان دونوں میں آج کل افراط و تفریط ہے اپنی تصانیف میں، میں نے الحمد للہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ لوگ افراط و تفریط سے نج جائیں۔ وہ کتابیں آپ لوگ ضرور لے جایا کریں ان میں سے ایک کتاب ”ذکر اللہ کے فضائل و مسائل“ ہے، ایک کتاب ”عقیدہ اور عقیدت“ ہے، اسی طرح

”آئینہ ایمان“ ہے۔ ان سب کتابوں میں یہ مضامین موجود ہیں اور ان تصانیف سے آپ کو افراط اور تفریط سے پاک عقیدہ ملے گا جس سے آپ اعتدال کے ساتھ دین پر چل سکیں گے۔ بہر حال! اس وقت میں نے نئی نئی ”عقیدہ اور عقیدت“، لکھی تھی جب انسان نئی نئی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس وقت بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں اس لئے اس وقت مجھے کچھ باتیں یاد تھیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کی محبت مطلوب ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مطلوب ہے۔ میں نے کہا اگر نبی کریم ﷺ کی محبت مطلوب ہے تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ اگر مثلاً آپ کے لڑکے کا ۱۰ برس پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ پھر ۱۰ برس بعد آپ اور آپ کی اہلیہ نے کوئی صندوق کھولا جس کے اندر سے اس کے کپڑے نکل آئے، کپڑے سامنے آنے پر تم دونوں (میاں بیوی) روپڑے کیا اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو رود گے؟ اس نے کہا رونمیں گے۔ میں نے کہا اب کیوں روتے ہو؟ حالانکہ وہ آج نہیں مرا ہے بلکہ ۱۰ برس پہلے مرا ہے تو آج رونے کے کیا معنی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی ہمیں یاد آگیا ہے۔ میں نے کہا کہ محبت کی چنگاری بھڑک گئی ہے، جذبات ابھر گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی چیز (علامت کو دیکھ کر صاحب علامت کو یاد کرنا) محبت کو ابھارتی ہے۔ نیز میں نے انہیں بتایا کہ نبی کریم ﷺ کے ناخن مبارک صحابہ کرام ﷺ نے محفوظ کیے تھے اور آپ ﷺ کے سامنے محفوظ کیے تھے۔ آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں اس میں موجود ہے لی یہ

لَعْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ صَاحِبُ الْإِذَانِ أَنَّهُ شَهَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَنْحِرِ وَرَجَلٌ مِنْ قَرِيبِهِ وَهُوَ يَقْسِمُ أَصْحَاجَ فَلَمْ يُصْبِهِ شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَةٌ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَاعْطَاهُ مِنْهُ وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلْمَ أَطْفَارَهُ فَاعْطَى صَاحِبَةَ قَالَ وَإِنَّ شَعْرَةً عِنْدَنَا لَمْ يَخْضُوبْ بِالْجِنَّاءِ وَالْكَمْ: اخْرُجْهُ نَيْلُ الْأَوْطَارِجَ ابْابُ فِي إِنَ الْأَدْمِي لَا يَنْجُسْ بالموت الخ.

باتیں نیز صحابہ کرام ﷺ نے نبی کریم ﷺ کے بالوں کو محفوظ کیا تھا۔ بلکہ صحابہ کرام ﷺ تو جب نبی کریم ﷺ وضو فرماتے تھے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کا مستعمل پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، جس کو کوئی قطرہ ملتا وہ جسم پر مل لیتے، کسی کو اگر کوئی قطرہ نہ ملتا تو وہ دوسرے شخص جس کے ہاتھوں آپ ﷺ کے پانی کی تری لگتی ہوتی ہوئی اس کی تری سے خود کوں لیتے۔ ۳ نیز حج کے موقع پر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خود اپنے بال مبارک ایک صحابی کو دیے اور فرمایا کہ اس کو صحابہ کرام ﷺ میں تقسیم کرو! دیکھیں آپ ﷺ نے مال و دولت کو تقسیم نہیں فرمایا بلکہ اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے ہیں صحابہ کرام ﷺ اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ

۱ عن عثمان بن عبد الله بن مؤهِّب قال دخلت على أم سلمة فاخرجت إليها شعر النبي ﷺ مخصوصاً وقال لها أبو نعيم حدثنا نصیر بن الأشعث عن ابن مؤهِّب أن أم سلمة أرثه شعر النبي ﷺ أحمر رواه البخاري ج ۲ ص ۸۷۵ كتاب اللباس باب ما يذكر في الشيب.

۲ عن غون بن أبي جحيفه أن أبا زائدا رسول الله ﷺ في قبة خمرا من آدم ورأى ذلك أخرجاً وضوء فرأى الناس يبتذرؤون ذلك الوضوء فمن أصحابه شيشان مسح به ومن لم يمس منه أحد من يدلليه صاحبه ثم رأى ذلك أخرجاً فركزها فخرج رسول الله ﷺ في حلبة خمراً مشمراً فصلى إلى العترة بالناس وركع في ورأى الناس والدواب يمرون بين يدي العترة.

رواه مسلم ج ۱ ص ۹۶ كتاب الصلة باب سترة المصلى والندب إلى الصلة إلى السترة وفي روایۃ قال أبو موسی دعا النبي ﷺ بقدح فيه ماء فغسل يده ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما إشرباهما وافرغاعلى وجوههما ونحوهما كما رواه البخاري ج ۱ ص ۳۱ كتاب الموضع بباب استعمال فضل وضوء الناس

۳ عن انس ﷺ ان رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة يوم التحرثم رجع إلى منزله بمنى فدعى بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق (اسمه معمر ابن عبد الله العدوسي) فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ههـسا ابو طلحة فذدقة إلى ابـي طلحـة رواه ابو داود ج ۱ ص ۲۷۲ كتاب المناسك بباب الحلق والتقصير.

فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اگر حضور ﷺ کا ایک ہی بال ہو وہ ہمیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے ان بالوں کو کیوں تقسیم فرمایا؟ بالآخر اس (کیمین والے عرب ساتھی) کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی آثار بڑے اہم ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آثار بدعاں نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وقت کے نبی کے ذریعے طالوت کو باڈشاہ مقرر کیا، امیر اور کمانڈر مقرر کیا بھی اسرائیل کے لئے تاکہ وہ ان کے ماتحت اللہ کے دشمنوں سے لڑیں۔ تو نبی اسرائیل نے وقت کے نبی سے تابوت کی ثانی مانگی۔ تو اس وقت کے نبی نے انہیں بتایا کہ وہ تابوت جو جنگ میں تم سے دوسرے فریق کی طرف چلا گیا تھا اسے فرشتے لا کر تمہیں دے دیں گے اس تابوت کے اندر آل موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں (عصا، پیڑی اور دوسری چیزیں) ان تبرکات میں تمہارے لئے سیکھنے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ (البقرہ: ۲۳۸)

”جس میں تسلیم (اور برکت) کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے)۔“

(بيان القرآن)

بہر حال! وہ ساتھی بہت خوش ہو گیا، میرے ساتھ دوستی لگائی اور انہوں نے غار حرا کی طرف میری رہنمائی کی جب میں غار مبارک میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک جگہ عربی میں لکھا ہوا تھا ”لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ“ (یہاں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔) کسی نے ”لَا“ کو کاٹ دیا تھا جس سے ترجمہ یوں ہوا تھا کہ یہاں نماز پڑھنی جائز ہے۔ پھر جب غار مبارک کے اندر گیا تو میں نے نفل

۱. عن ابن سیرین قال قلت لِعَبِيْدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبَّنَاهُ مِنْ قَبْلِ آتِيْسُ أَوْ مِنْ قَبْلِ اهْلِ آتِيْسِ فَقَالَ لَأَنَّ تَكُونَ عَنِّي شَعْرٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيْيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . رواه البخاري ج ۱ ص ۲۹ كتاب الوظؤباب الماء الذى يغسل به شعر الانسان.

پڑھے سامنے حرم شریف تھا (اب تو وہاں آبادی ہو گئی ہے اس وقت آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی اس لئے حرم شریف کے بینار وغیرہ زیادہ نظر آرہے تھے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تو صرف بیت اللہ ہی نظر آتا تھا۔ غرض یہ کہ بڑا سکون محسوس ہوا جب میں اوپر آیا تو میں نے ان (کیبین والے ساتھی) سے عرض کیا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے اور کسی نز کے پچھے نے ”لا“ کو کاٹ دیا ہے، یہ آپ لوگوں نے کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا: ”نماز تو جائز نہیں ہے یہاں پر“ میں نے پوچھا: کیوں جائز نہیں ہے؟ حالانکہ چند مقامات (ایسے ہیں) جہاں شرعاً نماز جائز نہیں ہے جن میں سے ایک قبرستان ہے کیوں کہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے میں یہ استثناء ہے کہ یہ شرک میں بتلانہ ہو قبر کو جدہ نہ کروالے اس لیے مقبرے میں نماز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حمام میں نماز جائز نہیں ہے نیز ہر وہ جگہ جہاں گندگی ہو کھرا داں ہو وہاں نماز جائز نہیں ہے تو یہ غارہ اُن مذکورہ مقامات میں سے کوئی مقام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ غارہ اُن ممنوع جگہوں میں سے ہے ہی نہیں تو۔ یہاں تو نماز پڑھنی جائز ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اس سے تو لوگ یہ کہیں گے کہ (یہاں) نبی کریم ﷺ نے عبادت کی ہے یا نماز پڑھی ہے چلو ہم بھی پڑھ لیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اس میں کیا قباحت ہے حج کے مقامات کو دیکھنے وہ سارے کے سارے تبرکات ہی تو ہیں۔ حج میں اور ہے ہی کیا چیز؟ صفا و مروہ میں دوڑنا یہ ہماری ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا دوڑنا ہے، اسی طرح ذبح کرنے کی کنکریاں مارنے کی، اور وقوف عرفات کی غرض یہ کہ ان تمام اركان میں سے ہر ایک کی ایک تاریخ ہے اور یہ سب آثار ہی ہیں۔ ایمانداروں کو ان سب اركان سے توحید ہی ملتی ہے، وہ سوچے گا ہمارے اسلاف کیسے اللہ کے راستے میں دوڑے مال کی قربانی دی، بیٹھے کی قربانی دی، یہ ساری چیزیں ہمارے لئے نمونہ ہیں، تو یہ آثار تو سارے توحید سے بھرے ہوئے ہیں، حج ہے ہی آثار (پرشتم)

اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں:

فِيْهِ أَيْثَ بَيَّنَتْ (آل عمران: ۹۷)

”اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔“ (بیان القرآن)

باقی نماز پڑھنے سے متعلق (قرآن کریم میں یوں) تصریح ہے:

وَاتْبِعْهُدُّوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى (البقرہ: ۱۲۵)

”اور مقام ابراہیم کو (کبھی کبھی) نماز پڑھنے کی جگہ بنالیا کرو۔“ (بیان القرآن)

مقام ابراہیم کو ہی کیوں خاص کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ یوں فرماتے کہ بیت اللہ کو پکڑو (مقام ابراہیم وغیرہ کو رہنے والے دو کیوں شرک کرتے ہو) لیکن (اللہ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا کیوں کہ) یہاں مقام کی خاصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بناتی ہے، وہاں نماز پڑھی ہے۔ پھر (یہ بھی ملحوظ نظر رہنا چاہئے کہ) نبی کریم ﷺ کے پاس ایک صحابی ﷺ تشریف لائے اور آکر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں اپنے گھر کے اندر نماز کی ایک جگہ بناتا ہوں (یہ بھی سنت ہے کہ گھر کے اندر نوافل وغیرہ کی جگہ ہو پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لوگ جگہ بناتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ﷺ کے زمانے سے چلا آرہا ہے) اس صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر کے اندر ایک جگہ نماز کے لئے مخصوص کرتا ہوں آپ وہاں تشریف لا کر نفل پڑھ لیں تاکہ میرے لئے برکت کا ذریعہ ہو جائے۔ آپ ﷺ نے ان صحابی ﷺ کے ساتھ تشریف لے گئے ان کے گھر میں (وہاں ان کے گھر پہنچ کر) آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں نماز کی جگہ بناتا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: (ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ) یہاں، چنانچہ آپ ﷺ اس کونے میں تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ کرام ﷺ وہاں موجود تھے تو انہوں نے آپ ﷺ کی اقتداء مبارک میں وہاں (نفل) نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ ﷺ نے وہاں دعا فرمائی۔ پھر اسی جگہ کو ان صحابی ﷺ نے اپنی نماز کے لئے مخصوص فرمایا۔ اب اگر یہ چیز ناجائز ہوتی، بدعت ہوتی تو نبی کریم ﷺ ان صحابی ﷺ کو بتلاویت کے یہ تو ناجائز ہے (کہ میں ایک جگہ نماز پڑھوں پھر اس جگہ آپ حصول برکت کی نیت سے نماز پڑھتے رہیں، بلکہ آپ ﷺ انہیں فرمادیتے کہ) جاؤ! پڑھتے رہو جہاں پڑھنا چاہتے

ہو (برکت وغیرہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ ﷺ نے ایسا فرمادینے کی بجائے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور ان کی خواہش کے عین مطابق آپ ﷺ نے ان کے گھر میں نماز پڑھی ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار رسول ﷺ باعث برکت و رحمت و نجات ہیں) حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے مبارک پیسے کو جمع کر رہی تھی، جب نبی کریم ﷺ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم میرا پیسہ کیوں جمع کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں اس سے اپنے عطر کو خوشبودار کرتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لئے اپنے بچوں کو ملتے ہیں۔ ۲ (آپ ﷺ نے ان باتوں کو سن کر سکوت فرمایا حالانکہ اگر یہ شرک

۱ عن ابن شهاب قال أخْبَرَنِي مُمَدِّدُ النَّبِيِّ الرَّبِيعُ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْيَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهَدَ بِدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أَصْبَلُ لِلنَّوْمِ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَيَ مسْجِدَهُمْ فَاصْبَلَ لِبَيْهِمْ وَوَدَدْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْكَ تَاتِنِي فَتَصِلَّى فِي بَيْتِي فَاتَّخَذَهُ مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ سَافِعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عَبْيَانُ فَعَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرَ حَمْيَنْ إِرْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فَأَذْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجِلِّسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصْبَلَّ مِنْ بَيْكَ قَالَ فَاشْرَأْتُ لَهُ إِلَيْنَا نَاحِيَةً مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فَكَبَرَ فَقُمْنَا فَصَلَّى رَسْكَعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ الْخَ (حدیث شریف طویل ہے) رواہ البخاری ج ۱ ص ۶۰ کتاب الصلة باب المساجد فی البيوت.

۲ عن انس بن مالک قال كان النبي ﷺ يدخل بيته ام سليم فنام على فراشه او ليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشه فافتت فقيل لها هذا النبي ﷺ نائم في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستيقع عرقه على قطعة اديم على الفراش ففتحت عيدهتها فجعلت تتشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففرع النبي ﷺ فقال ماتصنعين يا ام سليم فقالت يارسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبحت. وفي رواية عن انس بن مالک قال دخل علينا النبي ﷺ فقال عندنا فرق وجاءت امي بقارورة فجعلت تسللت العرق فيها فاستيقظ النبي ﷺ فقال يا ام سليم ما هذه الذي تصنعين قالت هذا عرقك يجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب.

رواہ مسلم ج ۲ ص ۲۵۷ کتاب الفضائل باب طیب عرقه النبي ﷺ والشرک به

ہوتا تو آپ کبھی بھی سکوت نہ فرماتے بلکہ غایت درجے نکیر و ملامت فرماتے جبکہ آپ نے ان پر کوئی نکیر نہ فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار رسول عقیدے کے اعتدال کے ساتھ باعث برکت ہیں) بہر حال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نبی کریمؐ کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں کیوں کہ جتنی آپؐ سے محبت بڑھے گی اتنے تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قریب ہو جاؤ گے، رسول اللہؐ کی اتباع نصیب ہو جائے گی۔ البتہ اتنا ہے کہ آثار وغیرہ جیسی چیزوں کی پرستش نہ کی جائے (جیسا کہ بعض جاہل اور معاذ قسم کے لوگ کرتے ہیں) ان چیزوں (آثار) سے یہ امید نہ رکھیں کہ یہ (آثار) نفع دیں گے، بلکہ نفع دینے اور نقصان دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے نبی کریمؐ کو ایسا (باکمال اور جامع اوصاف محسن) بنایا تھا (کیوں کہ قaudہ ہے کہ) جو آدمی اچھا عطر بنتا ہے اس کے لئے شیشی بھی اچھی بنتا ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریمؐ کی ہر چیز متبرک ہے۔

مبارک اور مبارک کا فرق یاد رکھیں!

ایک ہے برکت دینے والا اور ایک ہے مبارک (یعنی برکت دیا گیا، با برکت) دونوں میں فرق ہے۔

مبارک: یعنی برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہیں۔

مبارک: وہ چیزیں ہیں جنہیں برکت دی گئی ہیں یعنی با برکت چیزیں، گویا کہ مبارک خالق ہے اور مبارک مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔

بَيْكَةَ مُبَارَكًا (آل عمران: ۹۶)

”(اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف سے متعلق فرماتے ہیں کہ) وہ مکہ میں ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے۔“ (بیان القرآن)

اگر کوئی آدمی کسی چیز کو کہے کہ یہ برکت دینے والی ہے تو یہ شرک ہے اور کہنے والا بتلاتے

شرک ہے۔ اور اگر یوں کہئے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے اور یہ مبارک ہے (تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیوں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے اس لحاظ سے کئی ساری چیزیں مبارک بنتی ہیں مثلاً جیسے) عید مبارک وغیرہ۔

دوسری مجلس

دوام عمل کی برکتیں

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد:

نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے:

”اچھا عمل وہ ہے جس پر دوام کیا جائے۔“

اس مضمون کو نبی کریم ﷺ نے مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ کبھی فرمایا:

”إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهِ أَذْوَمُهَا وَإِنْ قُلْ “।

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی والے کام ہوں۔“

(بخاری و مسلم)

کبھی فرمایا: خَيْرُ الْأَمْوَارِ أَذْوَمُهَا ۝ ”بہترین کام ہمیشگی والے کام ہے۔“

کبھی فرمایا:

خَيْرُ الْأَعْمَالِ مَادِيمٌ عَلَيْهَا س

”اچھا عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے۔“

۱۔ اخر جہ مسلم ج ۱ ص ۲۶۶ کتاب صلوٰۃ المسافرین۔ باب فضیلۃ العمل الدائم۔ وبخاری

ج ۲ ص ۹۵ کتاب الرفاقت باب القصد والمداومة على العمل.

۲۔ اخر جہ البخاری ج ۲ ص ۹۵ باب القصد والمداومة على العمل (اسی طرح ایک اور روایت

میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ کامل کس طرح تھا آیا کوئی خاص دنوں کیسا تحریخ مخصوص تھا؟ تو فرمایا لا کان عملہ دینمہ و ایکم یستطیع ما کان النبی ﷺ یستطیع).

۳۔ اخر جہ اتحاف ج ۸ ص ۵۸۰

اس طرح کئی جگہ مختلف انداز سے نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ جو اعمال ہم کریں تو ان اعمال کو دوام یعنی پھیلکی کے ساتھ کریں۔ (یہ نہ ہو کہ بھی کریں اور بھی نہ کریں بلکہ روزانہ پابندی کے ساتھ کریں)

بعض اعمال پر آپ ﷺ کی مداومت نہ فرمانے کی حکمت

نبی کریم ﷺ نے بعض اعمال خود دوام کے ساتھ نہیں کیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ ان اعمال پر مداومت فرماتے تو وہ امت کے لئے قانون بن جاتا جس پر عمل کرنا امت کے لئے واجب ہو جاتا اور اس سے امت پر مشقت آتی۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے تین دن تراویح پڑھی ہے کہ اگر میں اس پر مداومت کروں تو یہ امت پر واجب ہو جائے گی۔ اس طرح کئی اعمال نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ ادا فرمائے ہیں اور امت کو یہ ترغیب دی ہے کہ یہ کرنے کی چیز ہے لیکن خود آپ ﷺ نے مداومت نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ آپ ﷺ امت کو مشقت سے بچاتے تھے کہ کہیں یہ عمل امت پر واجب نہ ہو جائے۔ اس لیے بعض اعمال پر آپ ﷺ کے مداومت نہ فرمانے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ اس عمل پر آپ ﷺ سے مداومت ثابت نہیں ہے اس لیے اس پر مداومت کرنا اچھی بات نہیں۔ (یہ نتیجہ خذ اکرنا غلط ہے) کیوں کہ اگر آپ ﷺ ان اعمال پر بھی دوام فرمادیتے تو امت پر وہ تمام اعمال واجب ہو جاتے۔ دوام عمل کی بڑی برکتیں ہیں۔ (حضرت والا کا یہ بیان فخر کی نماز کے بعد ہوا تھا چونکہ فخر میں عام طور سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے کچھ ساتھیوں کو سوتا دیکھ کر حضرت والا نے زور سے فرمایا کہ ”جاگ جاؤ! ساتھ ہی ایک لطیفہ بھی سنایا جس سے مجمع ہشاش ہوا اورستی جاتی رہی۔ ذیل میں وہ لطیفہ نقل کر دیا جاتا ہے جس میں اس وقت کی مناسبت سے مراح بھی موجود تھا اور ایک اہم سبق بھی موجود تھا کہ کام کے وقت سونے والوں کا عموماً نقصان ہو جاتا ہے یہ لطیفہ غالباً پشتو زبان کی کسی کہاوت کا پس منظر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”سونے والوں کے زر کئے ہوتے ہیں۔“)

لطیفہ: ”سو نے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں۔“

دوسرا تین تھیں دونوں کی ایک ایک بھیں تھیں اور اللہ کی شان دونوں بھیں بچے جتنے والی تھیں۔ اب بھیں والوں کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ مادہ یعنی کٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بہبہت نر کٹے کے۔ کیوں کہ مادہ سے اور بچے ہوتے ہیں اسی طرح وہ دو دھنی دیتی ہے۔ اس لیے (ان فوائد کے پیش نظر) کٹی یعنی مادہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔

بہر حال ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت سورہ تھی اب اللہ کی شان کے جو عورت سورہ تھی اس کی بھیں نے مادہ یعنی کٹی کو جانا اور جو جاگ رہی تھی اس کی بھیں نے زکھا جانا۔ چوں کہ بھیں والے مادہ کو پسند کرتے ہیں اس لیے اس عورت نے جلدی سے اپنا کٹا سونے والی عورت کی بھیں کی طرف کیا اور کٹی یعنی مادہ کو اپنی طرف کر دیا۔ جب صحیح ہوئی تو وہ سونے والی عورت بھی جاگ آٹھی جا گئے کے بعد دیکھا کہ اس کی بھیں کے پاس کٹا کھڑا ہوا ہے یعنی زربہت پر پیشان ہوئی چنانچہ اس دوسری عورت کے پاس گئی دیکھا تو اس کے ہاں مادہ بچی کھڑی ہے افسوس کے ساتھ ان سے کہنے لگی کہ ہائے بہن! تمہارے ہاں کٹی ہو گئی ہے میرے ہاں تو کٹا ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں بہن! ”سو نے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں۔“ (مطلوب یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت نہ سوتی تو کٹی اسے مل جاتی کیوں کہ اس کی بھیں نے تو کٹی ہی کو جنا تھا مگر اس کے سونے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ دوسری عورت شرارت کر گئی تو سونے کا بہر حال نقصان ہی ہوا)

پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا: سونا صرف راحت اور نشاط کے لیے ہوتا ہے تاکہ عبادت میں قوت پیدا ہو۔ سونا سونے کے لیے نہیں ہوتا۔ بہر حال دوام عمل کی بڑی برکات ہیں۔

دوام عمل سے نتائج برآمد ہوتے ہیں

دوام عمل سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ کبھی عمل ہو کبھی نہ ہو اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ میں

نے حضرت شیخ (مرادقطب الاقظاب، ریحانۃ الدہر، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدفنی نوراللہ مرقدہ ہیں) کو خط میں اپنے حالات لکھے۔ کئی خطوط میں نے حضرت کو بھیج دیے تھے۔ سارے خطوط (خلافت) اجازت ملنے کے بعد ہی لکھے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے خط نہیں لکھا چونکہ حضرت شیخ نے مجھے اجازت جلدی دی تھی اس لیے پہلے خط کا موقع ہی نہ ملا۔ حضرت مجھے بار بار خط (کے جواب) میں یہ لکھتے تھے کہ:

”ممولات پر پابندی سے خوشی ہوئی اور ممولات پر پابندی (کرنا) ترقی کا زینہ ہے۔“
میں نے بار بار درخواست بھی کی کہ مزید ذکر دیا جائے۔ حضرت شیخ نے فرمایا نہیں: اتنا ہی کافی ہے (یعنی صرف ۳۰۰ مسنون تسبیحات) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ زیادہ لمبے اذکار کے قائل نہ تھے کہ آدمی اتنا وظیفہ کرے اتنا ذکر کرے بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی تھی کہ بس آدمی ٹھیک چلے بس اتنا ہی کافی ہے یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لمبے وظیفے کرے۔

مجھے مسنون تسبیحات بتائیں تھیں۔ وہ میں ۳۰۰ مرتبہ (ہر تسبیح ۳۰۰ مرتبہ) کر لیا کرتا تھا۔
حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بس یہی ٹھیک ہے۔ بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
حضرت نے مجھے بار بار لکھا کہ:

”ممولات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے۔“

یاد رکھیں! یہاں (کربونہ شریف، خانقاہ دارالایمان والتوی اور جامعہ زکریا میں)
جو اعمال رمضان المبارک میں ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی یہاں یہی اعمال ہوتے ہیں۔
یہی صلوٰۃ التسبیح (اور دیگر اعمال مثل اشراق، وچاشت، تہجد، اوایم کے اس طرح، سورۃ یاسین
وسورہ ملک کا اہتمام نیز درود شریف کا حلقة اور اسماے حسنی کا ذکر نیز دوازدہ تسبیحات کا تفصیلی
انفرادی ذکر اور اجتماعی تعلیمات کا اہتمام ہوتا ہے) رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ خانقاہ میں
صلوٰۃ التسبیح لازم ہے۔ لازم کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی لازم ہے بلکہ لازم سے مراد لزوم انتظامی ہے
تاکہ عادت بن جائے نیک کاموں کی اور اچھے کاموں کی۔ یہاں خانقاہ میں ان اعمال پر پابندی

کروانے کا مقصد یہ ہے کہ (عام طور پر) چالیس دن جب ایک عمل پر انسان کو دوام عمل مل جاتا ہے تو آگے جا کر وہ شخص اپنے ماحول میں بھی اس عمل کو کر سکے گا۔ اس لیے یہاں ایسے اعمال کرائے جاتے ہیں جو (عام طور پر) آدمی ہر جگہ کر سکتا ہے۔

دوامِ عمل سے استقامت نصیر ہوتی ہے

دوامِ عمل سے انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں کبھی دل چاہتا ہے کہ نیک عمل کروں اور کبھی دل نہیں چاہتا، تو اگر عمل پر دوام ہوگا تو انسان ہر حال میں عمل کرے گا خواہ دل چاہے یا نہ چاہے اسی کا نام استقامت ہے استقامت بڑی دولت ہے، کرامت استقامت کے پاؤں میں پڑی ہوتی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں:

الْإِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَافَةِ

”استقامت (باعتبار قدر و قیمت اور فوائد کے) کرامت سے بڑھ کر ہے۔“

دوامِ عمل کے فائدے کی دو حصی مثالیں

اگر استقامت حاصل ہو گئی تو بڑی چیز حاصل ہو گئی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ مثلاً ایک علاقہ ہے جس پر روزانہ کچھ شہینم گرتی ہے، کبھی کبھی بارش بھی ہوتی رہتی ہے تو اس علاقے کی فصل اچھی ہوتی ہے (اس کے برخلاف) اگر کسی علاقے میں دفعۃ بہت ساری بارش ہو جائے اور پھر اس کے بعد پورے سال بالکل بھی بارش نہ ہو تو اس طرح سے فصل تیار نہ ہوگی بلکہ خراب ہوگی۔

ایک عام غلط فہمی کا ازالہ

اس طرح اگر کسی شخص نے ایک دن لاکھوں کی تعداد میں ذکر کیا یعنی سال بھر کا ذکر ایک ہی دن میں کرڈا اور پھر پورا سال غافل رہا تو ایسا شخص غافل ہی رہے گا اس کے بجائے اگر وہ شخص اس ذکر کو سال بھر پر تقسیم کرڈا لے اور روزانہ (مثلاً) صرف چند مرتبہ ہی لفظ اللہ کا ذکر کر کے یا

لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَوْرَدْ كَرَے تو اس کا فائدہ پہلے سے زیادہ ہوگا۔ غرض یہ کہ اس طرح کرنے سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس میں کبھی بھی آدمی کو مغالطہ ہو جاتا ہے (کہ مثلاً روزانہ عمل کا مزہ نہیں آتا تو اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید فائدہ بھی نہ ہو حالانکہ بات ایسی نہیں ہے) میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا ہے کہ میں روزانہ تہجد نہیں پڑھتا، اسی طرح ذکر بھی روزانہ نہیں کرتا اور دیگر نوافل وغیرہ کا بھی یہی حال ہے کہ روزانہ نہیں بلکہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کا جومزہ ہوتا ہے وہ روز روز نہیں ہوتا۔ (اصول) تو اگر چہ یہ بات غلط ہے لیکن بظاہر یہ بات صحیح بھی ہے کہ کبھی کامزہ ہوتا ہے جیسے گوشت کبھی کبھی کھائیں تو مزہ ہوتا ہے روز روز کھائیں تو مزہ تو درکنار آدمی اکتا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی کو مغالطہ تھا کہ یہ اعمال کا کبھی کبھی کرنا شاید اچھی بات ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمل اندر ہیرا ہے پھر ایک دم روشنی ہو جائے تو انسان کو ایک گونہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ روشنی برقرار رہے تو کیا خوشی بھی بار بار ہو گی نہیں بلکہ ایک بار ہی خوشی ہو گی پہلی مرتبہ میں یہ بات آپ کوئی چیزوں میں نظر آئے گی کہ مثلاً پہلی مرتبہ تو خوشی ہوتی ہے پھر بار بار نہیں ہوتی (بلکہ وہی خوشی برقرار رہتی ہے بس اس کا احساس پہلے جیسا نہیں رہتا) آپ عطر کو دیکھیں اچھے سے اچھا عطر ہوتا ہے آدمی جب لگاتا ہے تو لگاتے ہی خوبیوں (کے بھنجنوں کے) محسوس ہوتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے اس میں بتدریج کی آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ خوبیوں ہونے کے برابر ہو جاتی ہے حالانکہ خوبیوں موجود ہوتی ہے لیکن اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کا عادی بن جاتا ہے۔ تو اس کے مرے کا احساس نہیں ہوتا لہذا تہجد وغیرہ اور دیگر اعمال کو کبھی کبھی کر لینے میں جومزہ آتا ہے وہ مزہ ہمیشہ ان اعمال کو کرتے رہنے میں بھی ہوتا ہے لیکن دوام کی وجہ سے وہ مزا محسوس نہیں ہوتا۔

دوام عمل غیر محسوس طور پر اثر کرتا ہے

عمل پر مداومت غیر محسوس طور پر اثر کرتی ہے ایک میل کے نیچے پتھر ہوتا ہے اس پر میل سے

ہمیشہ ایک قطرہ پیکتا ہے اس پر ان قطروں کا غیر محسوس طور پر اثر ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن کچھ عرصہ کے بعد پھر میں نشان پڑ جائے گا اگر ان تمام قطرات کو جمع کیا جائے اور اس پھر پر یکبار کی گرایا جائے تو اس پر کوئی نشان نہ ہوگا اسی طرح دوام عمل کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ بہر حال! دوام عمل کا آپ اہتمام کریں۔

دوام عمل کو حاصل کرنے کا طریقہ

آپ اہتمام کیسے کریں گے یہ آپ شریعت کے اصولوں سے سبق سیکھیں۔ مثلاً شریعت میں جو چیز فرض ہے (جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ) اگر وہ رہ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ قضا کی جاتی ہے (مثلاً نمازو رہ گئی تو اگلے وقت اس کی قضا کروی جاتی ہے) اسی طرح آپ جو اعمال کرتے ہیں اگرچہ وہ فرض نہ ہوں (مثلاً تسبیحات، تہجد اور دیگر نفلی اعمال) تو اگر آپ یہ پاہتے ہیں کہ ان اعمال پر اہتمام کے ساتھ مداومت رہے تب پھر آپ ان اعمال کے رہ جانے کی صورت میں ان کی قضا کر لیں۔ مثلاً آپ قضاۓ حاجت کے لیے بیت الحلا میں داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ نے دعائیں پڑھی اور سنت طریقے سے آپ داخل بھی نہیں ہوئے تو (تب آپ یہ نہ سوچیں کہ چلواگلی مرتبہ خیال کرلوں گا بلکہ آپ مداومت عمل کو حاصل کرنے کے لیے فوراً واپس باہر آ جائیں اور صحیح طریقے کے مطابق داخل ہوں۔

ایک پشتو کہاوت کا قصہ

(مندرجہ بالا بات کی مناسبت سے حضرت نے ایک پشتو کہاوت اور اس کے پس منظر کا واقعہ سنایا ذیل میں وہ کہاوت اور قصہ دونوں نقل کیے جاتے ہیں)

پشتو زبان میں (ایک مخصوص علاقے میں) یہ کہاوت ہے ”ڈانگلئی نہ ڈانگلئی“، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ چھلانگ لگانا چھلانگ نہ لگانے کے برابر ہے (اس لیے پھر سے چھلانگ لگاتا ہوں) اس کہاوت کا قصہ یہ ہے کہ کسی علاقے کے ایک شخص نے ندی پر سے پار ہونے کی

نیت سے چھلانگ لگائی لیکن اللہ کی شان وہ پارتہ ہوا بلکہ دریا میں گر پڑا (چھلانگ چھوٹی پڑ گئی تھی) تو اس نے ندی سے نکل کر دوبارہ اسی جگہ سے چھلانگ لگانے کی نیت کر لی اور ساتھ یہ کہا کہ ”وانگی نہ دانگی“، یعنی یہ پہلی چھلانگ لگانا چھلانگ نہ لگانا ہے اس لیے پھر سے چھلانگ لگاتا ہوں اسی طرح آپ بھی خلاف سنت عمل کو عمل شمار ہی نہ کریں بلکہ از سر نو اسی عمل کو سنت کے مطابق کر گزریے) اسی طرح اگر آپ مسجد میں خلاف سنت طریقہ کے ساتھ آئے تو (یاد آنے پر) آپ واپس باہر آ جائیں اور ثحیک طریقے سے مسجد میں داخل ہوں ایسا کرنے سے آپ کو (استقامت نصیب ہوگی اور) عمل کی اہمیت پیدا ہوگی اور تمہارے اندر پختگی پیدا ہوگی اور یاد رکھیں پہلا پھل ہی کام کا ہوتا ہے نہ کہ کچا پھل (ایسا ہی پختہ آدمی پسندیدہ ہوتے ہیں نہ کہ کچھ آدمی کہ آج کچھ ہیں کل کچھ) پکے لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں پکے لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں استقامت ہوتی ہے۔ حق پر استقامت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سراہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة: ۱۵۳)

”بِلَا شَيْءٍ حَقُّ تَعَالَى صَبْرَكُنَّ وَالَّذِينَ كَانُوا مُسْتَحْرِبِيْتُمْ هُنَّ هُنَّ الظَّالِمُونَ“ (بیان القرآن)

اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (آل عمران: ۱۲۶)

”اور اللہ تعالیٰ کو ایے مستقل مزا جوں سے محبت ہے۔“ (بیان القرآن)

صابرین یعنی ڈٹ جانے والے۔ تو جو اعمال پر نہیں ڈٹتے وہ میدان میں کیسے ڈٹیں گے۔ جو نماز، ذکر و اذکار (وغیرہ) پر نہیں ڈٹ سکتے تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس میں ڈٹ جانے کی خوبی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو اعمال بھی آپ کریں تو ان پر مداومت کریں۔ ان شاء اللہ کسی نہ کسی وقت فائدہ محسوس ہو گا (دوا میں عمل کا) اور عمل کا اصل فائدہ تو آخرت ہی میں نظر آئے گا، اس مداومت اعمال کا آپ کے اخلاق پر بھی اثر ہو گا۔ اور جو لوگ اعمال پر مداومت نہیں کرتے ان کے اخلاق میں بھی کچا پن موجود ہوتا ہے۔ (یاد رکھیں!) جو آدمی عمل پر مداومت کرے گا وہ ہمیشہ باکردار ہو گا۔

تیسرا مجلس

”خوف“ انسان کے لیے مفید ہے

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعدا!

اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کے اندر بہت اچھے مادے رکھے ہیں اور وہ انسان کے لیے ازبس ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک ”خوف“ بھی ہے۔ خوف وہ صفت ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے، خوف بڑی مفید چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ ایک پہاڑی پر جا رہے ہیں، درمیان میں کہیں (شگاف یا ڈھلوان ایسی ہے جہاں سے) گرنے کا خطرہ ہے تو وہاں آپ کیسے گزرتے ہیں؟ آرام سے گزرتے ہیں کہ کہیں گرتے جاؤں۔ اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہاں انسان احتیاط کرتا ہے۔ (مثلاً) کسی جگہ آپ نے دیکھا کہ سانپ ہے اب آپ خوف کی وجہ سے یا تو لاثمی اٹھا کر اسے ماریں گے تاکہ آپ اپنا دفاع کر سکیں یا پھر آپ وہاں سے بھاگیں گے۔ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کہ ان میں (سن شعور سے پہلے عام طور سے) خوف نہیں ہوتا ہے تو وہ سانپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ (الغرض یہ کہ) خوف بڑی مفید چیز ہے۔ اس خوف کی وجہ سے آدمی دنیا کی تکلیف اور نقصان سے اور موت کے بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَمَّا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىَ النَّفْسَ عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ^٥ (النزعت: ٣١، ٣٠)

اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراہوگا اور نفس کو (حرام) خواہش سے روکا ہوگا۔ سوجنت اس کا ملھکانا ہوگا۔ ”(بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے اندر خوف ہو گا وہ اپنے خواہشات و ہوا نے نفس سے رکے گا۔ جہنم خطرے کی جگہ ہے۔ خوف کی وجہ سے رکا تو خوف نے جنت پہنچا دیا۔ تو (عرض یہ کہ رہا تھا کہ) یہ خوف بڑی مفید چیز ہے۔

وہ خوف مفید ہے جو اعتدال کے درجے کا ہو

ایک ہے خوف کو اپنے اوپر مسلط کرنا۔ اسے ”وَهُمْ“ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو چیز بھی اپنے حدود سے بڑھ جاتی ہے وہ بد اخلاقی بن جاتی ہے (مثلاً خوف کو ہی لے لیں) خوف (درحقیقت) یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے ڈرے (اور اس ڈر کے نتیجے میں خالق کے احکامات کی بجا آوری کرے اس حقیقی خوف مذکور کے برخلاف) جو لوگ خوف اپنے اوپر مسلط کیے رکھتے ہیں وہ لوگ اس (نجت) کو اٹھا استعمال کرتے ہیں کیوں کہ خوف کا اصل معصود تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دینیوی تکالیف اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے نیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے اور گناہ والے کاموں سے بچتا رہے (اور جو لوگ ایک طرح کا خوف اپنے اوپر مسلط کیے رہتے ہیں عام طور سے وہ دنیا کا اور دنیا کی چیزوں کا اور ان چیزوں کے زوال وغیرہ کا بے جا خوف ہوتا ہے اس لیے) اس مفید چیز کو بے جا طور اپنے اوپر مسلط کر کے غیر مفید بنادیتے ہیں۔ پھر اگر اس (سلط کردہ) خوف کے ساتھ آپ نے ”وَهُمْ“ کو بھی ملا دیا تو اس سے نقصانات میں مزید اضافہ ہو گا۔

ٹینشن اور ڈپریشن کی حقیقت اور اس کا آسان ترین علاج

آج کل یہ (خوف کو خود پر مسلط کرنے کی) بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اللہ کے خوف اور فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں کیوں کہ جس دل میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس دل میں دوسرا خوف (مخلوق کا) اور دوسری فکر پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی

پر دو غموم کو جمع نہیں فرماتے۔ (بلکہ انسان کو ہمیشہ ایک ہی غم سے واسطہ پڑتا ہے) یاد نیا کاغذ ہو گایا آخرت کا۔ بہر حال! وہم آج کل کی بڑی بیماری ہے۔ اس وہم کو ”ٹینشن اور ڈپریشن“ کہتے ہیں۔ یہ بیماری کیسے بنتی ہے یہ (بیماری ہمیشہ وقت سے پہلے مستقبل کو خود پر سوار کرنے سے بنتی ہے) کہ آدمی یہ سوچے کہ آگے چل کر میں کیا کھاؤں گا؟ میرے بیوی پچے کیا کھائیں گے۔ تمہارے بیوی پچے فقیر کب ہو گئے کہ تم کو فکر لگی ہوتی ہے۔

اسی طرح یہ سوچنا کہ یہ پچے بڑے ہوں گے ان کی شادی کا کیسے انتظام کروں گا یہ خوف (قبل از وقت) ہے۔ یہ پریشانی اس لیے آتی کہ ہم نے بچوں کو وقت سے پہلے بڑا اور جوان سمجھا اور پریشان ہو گئے۔ یہ خوف مسلط کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ (دل میں) اگر وہ (اللہ کا خوف) ہوتا تو یہ سب خوف نہ ہوتے۔ اسی طرح یہ فکر کہ نوکری ختم ہوتی تو میں کیا کروں گا۔ میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ (یہ سب غلط قسم کے خیالات اور بے کار قسم کی سوچیں ہیں، خواہ مخواہ خود کو پریشان کرنے والی سوچیں ہیں ان سے بہر صورت پختا چاہئے) غیر مسلمون، فاسق فاجروں میں تو یہ بیماری پہلے سے تھی کہ مثلاً میرے پچے بڑے ہو کر جب ان کی شادی ہو گی تو یہ کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے اب مسلمانوں بلکہ بظاہر دیندار نظر آنے والوں میں بھی یہ بیماری آگئی ہے کہ یہ پچے بڑے ہو کر کہاں سے کھائیں گے۔ یہ سوچو کہ یہ پچہ بھی بھی تو کھا رہا ہے تو یہ (اس وقت) کہاں سے کھا رہا ہے (اللہ کے خزانوں سے کھا رہا ہے تو آئندہ بھی یہ اللہ کے خزانوں سے کھاتا ہی رہے گا آپ کیوں بلا وجہ کی مفت پریشانیاں مول رہے ہیں) جو خدا اس کو بھی دے رہا ہے تو جب یہ بڑا ہو گا تو وہ خدا اور بھی دے گا۔ اس لیے فکر مت کریں اور ڈریں بھی نہیں۔ اندر سے نہ ڈریں۔ (یعنی اپنے اندر سے خوف کو دور کر دیں) کیوں کہ تم جب بھی گرو گے ہمیشہ اپنے اندر سے گرو گے، باہر سے تمہیں کوئی بھی نہیں گرا سکے گا تمہیں گرانے والا تمہارا ”اندر“ ہو گا۔ اپنے اوپر خوف مسلط نہ کرو (بلکہ یوں سوچو کہ) جو بھی ہو گا دیکھا جائے گا۔ جب ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے تو پھر بھلا کیا ہمیں اور تمہیں

کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ (ہرگز نہیں) البتہ تم اپنے نفس سے ڈرتے رہا کرو تمہارا نفس تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور نہ کر دے۔

غیر ضروری خوف کے نقصان دہ ہونے کی

ایک فرضی مثال سے ولچسپ وضاحت

غیر ضروری خوف کے نقصان دہ ہونے کی بات پر مجھے ایک افسانہ یاد آیا۔ ہمیضہ ایک یہماری ہے وہ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار کہیں جا رہی تھی، راستے میں اسے بدو (دیہاتی) ملا۔ بدوانے ہمیضے سے پوچھا کہ تو کون؟ ہمیضے نے جواب میں کہا میں ہمیضہ ہوں! بدوانے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ ہمیضے نے کہا کہ عراق جا رہی ہوں۔ دیہاتی نے کہا کہ تم عراق کس لے جا رہی ہو کیوں کہ تم تو آفت ہی آفت ہو کوئی خیر تمہارے اندر ہے ہی نہیں (تو پھر تمہارے عراق جانے کا کیا مقصد؟) چونکہ ہمیضہ ایک مہلک اور جان لیوا یہماری ہے اس لیے) اس نے کہا کہ میں عراق جا کر میں ہزار آدمیوں کو ماروں گی۔ بہر حال! ہمیضہ عراق چلی گئی پھر کچھ عرصے بعد وہاں سے واپس آرہی تھی۔ اس دوران ہوتے ہوئے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عراق کے اندر ہمیضے کی یہماری لگنے سے ایک لاکھ آدمی انتقال کر گئے۔ اس بدوانے بھی کہیں سے یہ بات سن لی (وہ سوچنے لگا کہ ہمیضہ تو بڑی جھوٹی ہے جاتے وقت تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں میں ہزار آدمی ماروں گی اب اس نے وہاں جا کر بجائے میں ہزار کے ایک لاکھ آدمیوں کو مار دیا ہے) چونکہ بدلوگ بڑے پکے دماغ اور کچی زبان کے لوگ ہوتے ہیں (اس لیے اسے ہمیضے پر بڑا غصہ آیا ہوا تھا) جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں وہ لوگ (عموماً) مضبوط دماغ کے اور زبان کے بڑے پکے) ہوتے ہیں۔

اس لیے وہ بدوانے لگا کہ میں واپسی پر ہمیضہ سے ملوں گا کہ اس نے کیوں جاتے وقت مجھ سے غلط بیانی کی تھی خیر ہمیضہ کی واپسی کے موقع پر ملاقات ہو گئی بدوانے ملتے ہی سب سے پہلے

یہی سوال کرڈا کہ تو نے تو بیس ہزار آدمیوں کے مارنے کا کہا تھا پھر وہاں جا کر تو نے ایک لاکھ بندے کیوں مار دیے۔ ہیضہ کہنے لگی کہ ارے بد و امیں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے کیوں کہ میں تو سچ مجھ بیس ہزار آدمیوں کو مارنے گئی تھی اور بیس ہزار آدمیوں کو ہی مارا تھا باقی اسی ہزار آدمی خوف اور وہم سے ہی مرے ہیں (کیوں کہ وہاں مشہور ہوا تھا کہ ہیضہ ہے ہیضہ ہے بس ڈرپوک قسم کے لوگ حوصلے ہارنے لگے اور مرنے لگے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اسی ہزار آدمی صرف خوف سے ہی انتقال کر گئے)۔

خوف زائل کرنے کا طریقہ

اس واقعہ کو سنانے سے مقصود یہی ہے کہ آدمی بلا وجہ خوف نہ کریں۔ جو واقعی خطرات ہیں ان سے تو احتیاط بر تین باقی فرضی خوف بالکل نہ کیا کریں خوف زائل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سے تعلق ہرغم کامدا و اثابت ہوگا)

چوتھی مجلس

بدزبانی اور بدگمانی سے بچئے

اعوذ بالله من الشیطون الرجیم

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا أَتُنْهَا هِيَ أَحْسَنُ طَإِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَعُ عَنْهُمْ طَإِنَّ
الشَّيْطَنَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ (بنی اسرائیل : ۵۳)

”اور آپ (مسلمان) بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو شیطان لوگوں
میں فساد لواڑتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔“ (بيان القرآن)

آپ کو میں نے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ بہت سے فتنوں کا، لڑائیوں کا، اور جھگڑوں
کا سبب اور بنیاد بدزبانی اور بدگمانی ہے (مذکورہ بالآیت میں) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے
پیغمبر امیرے بندوں سے کہو کہ وہ وہی بات کریں جو بہتر ہو پیش ک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے
یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”بدزبانی جس چیز میں، جس بات میں شامل ہو جاتی ہے اس کو بد نہایتی ہے۔ (اس
کے برخلاف) جس چیز، (یا) بات میں حیا شامل ہو جاتی ہے تو وہ اسے خوش نہایتی ہے۔“ ۱
بدزبانی جس بات میں بھی شامل ہو جاتی ہے اس بات کو گویا زہر نہایتی ہے۔ (بدزبانی کے
مقابلے میں نیک زبانی یعنی اچھی بات کا اپنا ایک مقام اور اپنا ایک اثر ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
نے اچھی بات کو ہر ایسے مالی خیرات سے بھی بہتر قرار دیا ہے جس کے بعد بدزبانی اور احسان

۱ عن انس ﷺ قال قال رسول الله ﷺ مَا كَانَ الْفُحْشَ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاةُ فِي
شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ رواه الترمذی ج ۱۸ ص ۲۱ كتاب البر والصلة باب ماجأفي الفحش.

جتنے کا معاملہ ہو چنا نچہ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعَّهَا أَذْى (البقرة: ۲۶۳)

”(نادری کے وقت) مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا (ہزار درجہ) بہتر ہے ایسی

خیرات (دینے) سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔“ (بیان القرآن)

صدقة کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اچھا ہو دل خوش ہو، اب اگر آپ کسی کو کچھ مال دیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے طعن دیتے ہیں، اس پر احسان جاتے ہیں اور اسے ذلیل کرتے ہیں تو پھر ایسے صدقے سے تو یہی اچھا اور بہتر ہے کہ آپ اسے مال وغیرہ اور صدقہ نہ دیں بلکہ اس صدقے کی جگہ صرف اس سے اچھی بات ہی کر لیں۔ جس صدقے کے پیچھے ایڈا لگی ہوئی ہو، تکلیف لگی ہوئی ہو وہ صدقہ برپا ہو جاتا ہے۔ بدگونی پھوٹ پیدا کرتی ہے جو کہ شیطان کا کام ہے، اس کے ذریعہ شیطان لوگوں کے اندر غصہ، حسد، نفرت، اور نفاق کا تجھ بودھتا ہے۔ بہر حال زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے (زبان سے متعلق) علماء کرام فرماتے ہیں:

جِرْمَةُ صَغِيرٍ وَجُرْمَةُ كَبِيرٍ

”زبان کا جسم چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے۔“

(جرائم جنم کے زیر کے ساتھ جسم کو کہتے ہیں) کسی کو طعن زبان سے کی جاتی ہے..... جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے..... کسی نے کسی کو قتل کیا ہو پھر آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہو تو ورناء کو بعض شرپسند قسم کے لوگ مقتول کا طعنہ دیتے ہیں کہ تم اگر واقعی بہادر ہو تو اپنے خلاف مقتول کا بدلہ لے لو چنا نچا ان میں سے کوئی احتتا ہے اسلحة اٹھاتا ہے اور صلح ہو جانے کے باوجود ان میں سے کسی کو قتل کر دالتا ہے اب ویکھیں یہ جرات اور جرم کس نے کروایا۔ زبان نے کروایا۔ غرض یہ کہ زبان کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں مثلاً: شیطانت، چغلی، جھوٹ، غیبت، آدمیوں کو آپس میں لڑانا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بات سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہ انسان کی بات کا بڑا وزن ہے، مثلاً کوئی انسان زبان سے بیوی کو کہتا ہے تم کو ۳ طلاق، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی شخص

ایک عرصے تک روتا چلاتا رہتا ہے کہ میری شادی کراؤ! میری شادی کراؤ! شادی ہو بھی گئی اور قرض لے کر ۵ لاکھ روپے بھی لگادیے اب کیا ہوا غصے میں آگئے اور کہہ دیا تین طلاق، تو اس سے بیوی چلی گئی اب آپ بتائیں کہ بات میں کتنا وزن ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ میں نے اپنی لڑکی تمہیں دے دی ہے وہ آدمی یوں کہے کہ میں نے قبول کر لی (اب دیکھیں یہ بتیں ہی ہیں لیکن ان کا اثر کیا ہوا) اس کی لڑکی قبول کرنے والے کے گھر میں چلی جائے گی۔

لقمان حکیم[ؑ] کا ایک واقعہ

(مشہور ہے کہ) لقمان حکیم[ؑ] کو ان کے آقانے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے میٹھا ترین اور لذیذ حصہ لے آؤ! چنانچہ حضرت لقمان حکیم گئے، بکری ذبح کی اور اپنے آقا کے لیے اس کی زبان لے کر حاضر ہوئے۔ (بات آئی گئی ہو گئی) دوسرے دن پھر آقا نے لقمان حکیم سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے کڑوا ترین گوشت لے آئیں۔ چنانچہ وہ دوسرے دن بھی گئے، بکری ذبح کی اور زبان کا گوشت اپنے آقا کے لیے لے کر تشریف لائے۔

آقانے (حیران ہو کر) کہا کہ دونوں مرتبہ آپ ایک ہی چیز لے آئے (حالانکہ دوالگ الگ چیزوں کو لانا چاہئے تھا کیوں کہ مٹھاں اور کڑواہت آپس میں ضد ہیں تو جو میٹھا ہو گا وہ اور ہو گا اور جو کڑواہ ہو گا تو پھر آپ دو مرتبہ میں زبان ہی کو کیوں لائے تو اس سے میٹھی چیز حکمت ہے۔ لقمان حکیم نے کہا کہ یہ زبان اگر اچھی (اور نرم گفتار) ہو جائے تو اس سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر یہ بری (کڑوی) ہو جائے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ بہر حال بدزبانی سے بچیں۔ بدزبانی کو ایک حدیث میں نفاق قرار دیا گیا ہے (فرمان نبوی ﷺ کا مفہوم ہے کہ) جو لوگ بدزبانی کرتے ہیں وہ منافق ہیں۔ ۱

۱۔ نبی کریم ﷺ نے منافق کی چار علامات بتائیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ (وَإِذَا خَاصَمُ فَخَجَرَ) جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

من سکت نجا لے

”جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔“

ایک دوسری حدیث میں وارد ہے (جس کا مفہوم ہے کہ) ”جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔“ ۲۔ بہرحال! میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گھروں کو جائیں گے (یہ جملہ حضرت نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو حضرت کے ہاں اصلاحی چلہ ہوتا ہے وہ کے اشعبان سے ۲۷ رمضان تک ہوتا ہے پھر ۲۷ رمضان کو وہ تمام احباب جو اعتکاف میں نہیں ہوتے وہ گھروں کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ بیان غالباً انہی اخیر کے دنوں میں سے کسی دن کا ہے اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ ”آپ لوگ گھروں کو جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے“ اس لیے اپنی زبان کا خوب خیال رکھیں اس لیے کہ زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔

۱۔ اخرجه الترمذی ج ۲ ص ۶۷ کتاب فی صفة القيامة: باب المؤمن يرى ذنبه
واخرجه احمد فی المستند ج ۲ ص ۱۵۹ والدارمی ج ۲ ص ۲۹۹ وذکرہ الحافظ فی
الفتح عن الترمذی ج ۱۱ ص ۳۱۳ وقال رواه ثقات

۲۔ (یہ حدیث شریف کا ایک حصہ ہے پوری حدیث اسی طرح مذکور ہے) عن ابی هریرة ﷺ قال
قال رسول الله ﷺ منْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصُمُّثْ

رواہ البخاری ج ۲ ص ۹۵ کتاب الرفاقت: باب حفظ اللسان و مسلم ج ۱ ص ۵۰
کتاب الايمان باب الحث على اكرام الجار. والترمذی ج ۲ ص ۶۷ کتاب فی صفة
القيامة: باب المؤمن يرى ذنبه.

طعنہ بھی بھی نہیں دینا چاہیے

حضرت امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں مشہور القراء پیں۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کوفہ (شہر) کے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانے کے لیے آگئے کیا گیا، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ غالباً مغرب کی نماز تھی۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ ”سورۃ الکافرون“ پڑھ رہے تھے تو پھنس گئے (یعنی اُنکن آنے لگی چنانچہ مجبوراً انہوں نے) اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھی، جب نمازِ کامل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا: ”کوفہ کے قاری کو سورۃ الکافرون میں رک لگ گئی۔“ یعنی طعنہ دے دیا۔ پھر (پچھے عرصے بعد) اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوتی کی امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے آگئے ہو گئے، چنانچہ جب انہوں نے نماز شروع کی تو سورۃ الفاتحہ میں انہیں بند لگ گیا (یعنی اُنکن آنے لگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو سورۃ فاتحہ کے بعد غلطی آنے لگے تو اس جگہ کو چھوڑ کر قرآن مجید کی کسی دوسری جگہ کو پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن سورۃ فاتحہ کا تو تبادل نہیں ہے کیوں کہ سورۃ فاتحہ خود واجب ہے اس لیے) سورۃ فاتحہ کی تو دوسری سورۃ بھی قائم مقام نہیں مجبوراً انہیں سلام پھیرنا پڑتا۔ (چونکہ دل پینا تھا اس غلطی کے سبب پرتبیہ بھی ہوتی اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتے اس لیے ان سے خط اسر زد ہو بھی جاتی ہے لیکن انہیں فوراً تتبیہ ہو جاتی ہے جس کی برکت سے وہ فوراً نادم ہو کرتا ہب ہو جاتے ہیں چنانچہ) سلام پھیرتے ہی امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے:

اَخْفَظْ لِسَانَكَ لَا تَقْلِ فَتْبَلَى
إِنَّ الْبَلَةَ مُؤَكَّلٌ بِالْمُنْطَقِ

”زبان کی حفاظت کرو زیادہ باتیں نہ کرو، آزمائش میں پڑ جاؤ گے (کیوں کہ) بلا کمیں

مصیبیتیں (یوں لئے) کے ساتھ انکی ہوئی ہیں۔“

حدیث میں آتا ہے:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِيمٌ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِمَانِهِ وَيَدِهِ
”(کامل) مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے لوگ حفظ ہوں۔“ ۱

ہمیشہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں

اس لیے آپ جب بھی کوئی کوئی بات کریں پہلے سوچیں کہ یہ بات جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ (بات) ناجائز ہے تو اسے چھوڑ ہی دیں اور اگر جائز ہے ساتھ اس میں فائدہ بھی ہے یعنی لا یعنی بات نہیں ہے تب پھر آپ سوچیں کہ بات کس طرح کروں یعنی اس کے انداز کے بارے میں سوچیں کہ یہ بات کس انداز سے کروں، انداز بھی جب پیارا ہو تو، بہت اثر کرتا ہے مثلاً کسی آنے والے سے کھانا کھانے کا کہنا ہے تو اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں مثلاً ایک انداز یہ ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں ایک انداز یہ ہے کہ آپ پوچھیں مثلاً کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے (ایسا نہیں کہنا چاہیے کیوں کہ اس میں اندیشہ ہے کہ مہمان اگر ایسا ہو کہ وہ آپ سے زیادہ بے تکلف نہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں کھاؤں گا بلکہ وہ تو نہیں میں جواب دے گا والا یہ کہ وہ آپ سے بے حد بے تکلف ہو پھر اس طرح سے سوال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ورنہ وہ تو (شرم کی وجہ سے) کہے گا نہیں۔ آپ مہمان کو اختیار نہ دیں (یعنی سوال نہ کریں کہ کھائیں گے؟) بلکہ یوں کہیں کہ ”آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔“ مہمان سے کبھی بھی یہ نہ پوچھیں کہ کھانا کھاؤ گے؟ اگر کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے پوچھنا ہی پڑے تب پھر انداز اچھا رکھیں

۱۔ اخرجه البخاری ج ۱ ص ۲ کتاب الایمان: باب اٹی الاسلام افضل۔ و مسلم ج ۱ ص ۳۸

کتاب الایمان باب تفاضل الاسلام و اٹی امورہ افضل و اخرجه نسائی ج ۲ ص ۲۶ کتاب

الایمان و شرائعہ: باب اٹی الاسلام افضل۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان (فرشته) آئے۔ جب وہ تشریف فرمائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام (ان سے پوچھے بغیر) ان کے کھانے کی ترتیب بنانے لگے چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں آپ علیہ السلام نے مجھترے کو ذبح کیا اور بھون کر ان کے سامنے لے آئے۔ ایکصیں یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی عادت اور ان کے اخلاق۔

بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ شاید مہمان نے کھانا کھالیا ہو گا اس لیے احتیاطاً پوچھنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تب ایسے موقع پر پوچھنے کی صورت یوں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ تشریف رکھیں میں کھانا لے آتا ہوں۔ اب اگر مہمان نے کھانا کھالیا ہو گا تب وہ آپ کو منع کر دے گا اور اگر نہیں کھایا ہو گا تو پھر آپ کھلادیں آپ بات اس اندز سے نہ کہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے شرمند ہوں، ذلیل ہوں، رسو ہوں، (بلکہ ان ساتھیوں کی ہر طرح سے رعایت رکھیں اور ناپ تول کر جملے استعمال کریں)

واقعہ

ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مجھے اور میرے ایک ساتھی کو اسلام آباد سے کراچی کی فلاٹیٹ میں جانا تھا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا اس لیے ہم صحیح لٹکے اور جلد سے جلد اسی پورٹ پہنچنے کے لیے تیزی کے ساتھ سفر شروع کیا۔ چونکہ وقت کم فاصلہ زیادہ تھا اس لیے ہمیں جلدی تھی، اللہ کی شان راستے میں پولیس والے نے روکا۔ میرے ساتھی نے پولیس والے سے کہا: ”آپ بے شک ہماری تلاشی لے لیں لیکن براہ مہربانی تھوڑی سی جلدی جلدی لے لیں کیوں کہ ہماری

۱۔ هَلْ أَنَّكَ حَدِيثَ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا إِسْلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۝ فَرَأَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝ (الذریت: ۲۲)

(ترجمہ) کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ جب کہ وہ ان کے پاس آئے پھر (ان کو) سلام کیا (انہوں نے بھی) کہا سلام (یہ) انجان لوگ (تھے) پھر آپ اپنے گھر کی طرف چلے اور فربہ مجھتر اے آئے پھر اسے ان کے پاس لا کر رکھا۔

فلایت کا نام ہونے والا ہے خطرہ ہے کہ کہیں دیرینہ ہو جائے۔ پولیس والے نے یہ بات سنتے ہی ہمیں تلاشی لیے بغیر ہی چھوڑ دیا (یہ اچھے انداز کی برکت تھی آگے حضرت نے تو اپنا فرمایا کہ) اگر میں ہوتا تو کہتا یا رہمارا کام ہے تم ہمیں کیوں روکتے ہو۔ بہر حال جو بات کہنی ہو اور وہ بات جائز بھی ہوتا بھی آپ اس بات کے لیے انداز بھی سوچ لیا کریں اور اچھے سے اچھے انداز سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔

پانچوں مجلس انسانی روح کی حقیقت

انسان روح اور نفس سے مرکب ہے

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد) ہم علماء اور مشائخ سے سنتے ہیں کہ انسان روح اور نفس سے بنا ہوا ہے اور مرکب ہے (روح کا لفظ سنتے ہی) ہمارے ذہن میں عموماً اس سے یہ (خیال) آتا ہے کہ یہ جو روح ہمارے بدن کے اندر دوڑتی ہے، جس کے نکلنے کی صورت میں جسم مرجاتا ہے اور جسم میں رفتہ رفتہ کیڑے پڑ جاتے ہیں یہی درحقیقت روح ہے (حالانکہ یہ خیال درست نہیں ہے کیوں کہ روح یہ نہیں ہے بلکہ روح ایک نورانی حقیقت کا نام ہے جس کا تذکرہ آگے آرہا ہے) (چونکہ اس بیان میں حضرت والا نے روح سے متعلق بات فرمائی تھی اس مناسبت سے بار بار روح کا ذکر آتا تھا اس لیے حضرت نے اردو والوں سے پوچھا کہ روح اردو میں مؤنث ہے یا مذکور؟ عرض کیا گیا کہ حضرت روح اردو میں مؤنث ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ پشتو میں یہ لفظ مذکور کے ساتھ مستعمل ہے پھر اس بات کی مناسبت سے حضرت نے یہ لطیفہ سنایا۔)

”ہمارا قوم مذکور ہے“ والا لطیفہ

ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پختون لیڈر تھا وہ کسی جلسے سے خطاب کر رہا تھا اردو زبان میں۔ اور بار بار کہہ رہا تھا کہ: ”ہمارا قوم“، ”ہمارا قوم“ (حالانکہ قوم کا لفظ اردو میں مؤنث ہے اس لحاظ سے یہ جملہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ: ”ہماری قوم“) جلسے میں اور بھی کچھ پڑھے بہت سے لوگ موجود تھے تو ان لوگوں میں سے ایک اردو بولنے والے نے پختون لیڈر سے کہا کہ بھائی صاحب قوم

موئنث ہے مذکور نہیں ہے اس لیے آپ ”ہمارا قوم“ کہنے کے بجائے ”ہماری قوم“ کہیں۔ اس پختون لیڈر نے برجستہ جواب دیا کہ جناب! موئنث ہو گی تمہاری قوم۔ ہماری قوم مذکر ہے اس لیے میں ”ہمارا قوم“ کہہ رہا ہوں۔ بہر حال یہ عرض کر رہا تھا کہ جب روح اور جسم کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور جس کے نفل جانے کی وجہ سے جاندار چیز مر جاتی ہے۔ جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے کیوں کہ مشائخ کے ہاں روح کسی اور حقیقت کا نام ہے (تو وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کیوں کہ اگر روح فی الحقیقت اسی کا نام ہے جسے ہم روح سمجھتے ہیں تو وہ روح تو انسان ہی کا کیا خاصہ تمام جانداروں حتیٰ کہ کتنے گدوں غیرہ میں بھی ہوتی ہے اور انسان ہی کی طرح دیگر تمام جاندار بھی اس روح کے نفل جانے سے مر جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کے جسم گل سڑ جاتے ہیں۔ تو اگر روح یہی ہے تو پھر انسان کی عظمت کیا ہوئی؟ یہ تو اشرف الخلقات ہے تو اس کی شرافت کسی وجہ سے ہوئی۔ الغرض یہ کہ اس تصور سے تو انسان دیگر جانداروں کے مساوی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان تمام مخلوقات میں بزرگ و برتر ہے)

مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم روح کے لیے بمنزلہ سواری کے ہے (اور خود ”روح“ بمنزلہ سوار کے ہے) اب آپ یہ سمجھیں کہ سواری میں بھی روح ہوتی ہے جیسے انسان سوار ہے اور گھوڑا سواری ہے تو گھوڑے میں بھی روح ہوتی ہے۔ (خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ) انسان تین چیزوں سے مرکب ہے (درحقیقت انسان دو ہی چیزوں سے مرکب ہے یہاں صرف سمجھانے کے لیے بطور مقدمہ ابتدائیہ کے تین چیزوں کبھی گئی ہیں آگے جا کر ان میں سے انسانی جسم اور انسانی روح بمعنی سٹیم ایک ہو جائے گی اور روح بمعنی اللہ کا امر دوسرا چیز ہو جائے گی تو انسان اُنہی دو سے مرکب ہے یہ مضمون ذرا ادقیق ہے اگر کسی کو سمجھنے میں دشواری ہو جائے تو کسی عالم سے اس کو سمجھیں۔ از: مرتب)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عنانصر اربعہ (مٹی، ہوا، پانی اور آگ) سے بنایا ہے، باقی مخلوقات

(جاندار) جیسے گدھے، کتے وغیرہ کو بھی انہی عناصر اربعہ سے ہی بنایا ہے اسی مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے وہ سب بھی بنائے گئے ہیں۔ اب ایک ہی طرح کے عناصر اربعہ ہیں۔ انہی سے انسان بھی بنی ہے اور انہی سے دیگر جاندار مخلوقات بھی بنی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باقی جانداروں کے نسبت انسانی ساخت میں میریل عمدہ لگا ہوا ہے۔ جیسے ہوا تی جہاز لو ہے سے بنتا ہے اور سائکل بھی لو ہے سے بنتا ہے (ایک ہی لو ہا ہے اسی سے جہاز بھی ہے اور اسے سے سائکل) لیکن دونوں میں فرق ہے (کیوں کہ جہاز کا لو ہا سائکل کے لو ہے کے مقابلے میں کئی گناہ عمدہ لو ہا ہے) تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا خلاصہ بنایا ہے اور اس میں بہت اچھی صلاحیتیں رکھی ہیں روح (جو ہمارے ذہنوں میں ہے) جو انسان کے بدن میں دوڑتی ہے اور دیگر جانوروں میں بھی ہے تو وہ روح نہیں ہے بلکہ ایک اشیم ہے، ایک قوت ہے۔ وہ ایک ایسی قوت ہے جو کہ خون والے جانداروں میں خون کی گردش سے جبکہ دیگر جانداروں میں کسی لیس دار مادے سے بنتی ہے اور وجود میں آتی ہے تو یہ ایک قوت ہے اور ایک اشیم ہے حیوانی۔

جیسے پہلے چکڑا گاڑی ہوتی تھی وہ کوئلے سے اس طرح چلتی تھی کہ پہلے کوئلے کو آگ لگادیا جاتا پھر اس آگ سے ایک اشیم وجود میں آتی جس سے یہ چکڑا گاڑی اور اس وقت کی ریل گاڑی وغیرہ چلتی تھی یہ اشیم اور قوت جو کوئلے کے جلنے سے وجود میں آتی تھی روحانی نہیں ہوتی تھی بلکہ سراسر مادی ہوتی تھی اس کے باوجود بھی وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ بہر حال انسان کی یہ قوت (جیسے ہم روح خیال کرتے ہیں) خون کے بخارات سے بنتی ہے وہی بخارات ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب کسی جاندار جانور (مشل گائے، بکری وغیرہ) کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے اس کا خون نکل جاتا ہے (جس کی وجہ سے بخارات بند ہو جاتے ہیں) اور وہ جانور مر جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی اور حادثے سے جاندار کے وجود کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جیسے کرنٹ وغیرہ کا لگنا۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ جو اشیم خون سے بنتی ہے یہ انسان اور دیگر تمام جاندار مخلوقات میں

بھی بنتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں (ایک جسم اور ایک یا اٹھیم) یہی دو چیزیں جسم ہیں۔ جسم بھی مادی ہے اور وہ قوت بھی مادی ہے (کیوں کہ یہ اٹھیم خون سے بنی ہے خون تو مادی ہے تو وہ بھی بطریق اولیٰ مادی ہو گی) اس لیے اس کی غذا بھی مادی ہے کیوں کہ خود مادے سے بنائے ہے۔ تو جسم مادیات سے فائدے اور غذا حاصل کرتا ہے جبکہ روح اسی سے صرف عبرت حاصل کرتی ہے۔

ڈارون کا ”نظریہ ارتقاء“ غلط ہے

(اب آپ یہ سمجھیں کہ) ہر انسان کو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے ایک اندر کا انسان بھی دیا جاتا ہے جس کا نام روح ہے، تفصیل آرہی ہے یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان روزِ اول سے ہی انسان ہے ایسا نہیں کہ پہلے کچھ اور تھا پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنائیجیسے کہ بعض محدود کا یہی خیال ہے ابھی میں سے اس نظریے کا باقی ڈارون بھی ہے ڈارون کا نظریہ ”نظریہ ارتقاء“ کہلاتا ہے جس کی بقدر ضرورت تشریح یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنائے ایسا نہیں ہے اس کی تردید بندہ نے ”دہریت سے اسلام تک“ نامی کتاب میں کی ہے کہ (حضرت والا نے اس جگہ ڈارون کے اس غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ:)

”ڈارون کا نظریہ غلط ہے کہ انسان پہلے بندر تھا معاذ اللہ (حضرت نے مزاہ ڈارون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا) تمہارا باپ بندر ہو گا ہمارا باپ بندر نہیں تھا بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھا۔ (ڈارون کا نظریہ ہر اعتبار سے غلط ہے حتیٰ کہ عقولاً بھی غلط ہے کیوں کہ) بندر کے اندر انسانی روح آہی نہیں سکتی کیوں کہ بندرا اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ جیسے سائکل اڑنے کے لیے نہیں بنتی اڑنے کے لیے تو جہاز بننے ہیں۔ بہر حال انسان کو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے بہترین صلاحیتیں دی ہیں حقیقی روح کے لیے یہی سواری یعنی انسانی جسم موزون ہے، وہ (حقیقی روح) اللہ کا امر ہے اور خالص روحانی چیز ہے۔ جس کا مادے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ

روح اندر کا انسان ہے۔ ہم لوگ سب کو انسان کہتے ہیں (کیوں کہ ہم ظاہری شکل صورت پر فیصلہ کرتے ہیں اور بظاہر تو سمجھی انسان ہی نظر آتے ہیں) وہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں انسانیت نہیں ہے (یعنی اچھے اخلاق اور اچھا کردار ایسا نئے عہد وغیرہ جیسی صفات) وہ جانور ہے انسان نہیں ہے۔ اس سے مراد یہی اندر کی انسانیت یعنی روح ہے۔ (مذکورہ بالاقریر سے) آپ یہ جان پھلے کہ روح سوار ہے اور جسم انسانی اس کی سواری ہے۔ (چونکہ دونوں کی ساخت علیحدہ علیحدہ ہے ایک مادی اور ایک روحانی ہے) اس لیے دونوں کی غذا خوراک اور بقاء و ترقی کے ذرائع علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سوار (یعنی روح) کی غذا ذکر اور ایمانی صفات ہیں۔ باقی جسم یعنی سواری کی غذا مادی ہے (دونوں کی خوراک کی طرح) دونوں کے مقابلے (بھی) الگ الگ ہیں۔ اگر سوار کو مضبوط کریں گے اور قوی کریں گے اور سواری کو بالکل کمزور تو اس پر سفر کرنا مشکل ہے اور اگر سواری کو قوی اور طاقت ور کریں گے اور سوار کو کمزور پھر سوار کے لیے اس کا سنتھانا مشکل ہوگا بہر حال سوار کی خوراک الگ ہے اور سواری کی خوراک الگ ہے سواری چونکہ مادی ہے اس لیے اس کی ضرورتیں مادے سے پوری ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ مادیات کا عاشق ہو جاتا ہے۔ (اور اسی طرف ہی مائل رہتا ہے)

محنون اور اس کی اونٹنی کی آنکھ پھولی کا

ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ

(مذکورہ ہالامضمون کی مناسبت سے حضرت نے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے متدرجہ ذیل واقعہ سنایا ملاحظہ فرمائیں) مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محنون لیلی پر عاشق تھا چنانچہ ایک مرتبہ محنون لیلی کی زیارت کرنے کی غرض سے اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجازی عشق سے بچانے آئیں!

مجنون کی جوانی تھی اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا چونکہ وہ چھوٹا تھا سفر کے قابل نہیں تھا اس لیے مجنون نے اسے گھر پر ہی چھوڑا تاکہ پریشانی نہ ہو (اب اونٹی کے لیے بھی بغیر اس بچے کے چلنے مشکل تھا) راستے میں مجنون کو تھکن کی وجہ سے انگھے اور پھر نیند آگئی، جس کی وجہ سے مہار نرم پڑ جاتی اور اونٹی (بچے کی بے تابی کی وجہ سے) واپس گھر کی طرف مڑ گئی اور چلتے چلتے وہ دوبارہ گھر واپس آپنہ چاہا، مجنون کی آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹی گھر کے سامنے ہے پھر مجنون عازم سفر ہوا اور دوبارہ چلنے لگا، راستے میں پھر وہی انگھے اور نیند کا غلبہ ہوا مہار نرم پڑنے سے اونٹی کا رخ دوبارہ گھر کی طرف ہوا اب کے بار پھر مجنون کی آنکھ کھلی دیکھا کہ اونٹی گھر کے سامنے موجود ہے (کیوں کہ وہ بھی مجبور تھی اس لیے کہ اسے اپنے بچے سے عشق تھا وہ کیا جانتی کہ بیلی کیا بلا ہے) ہمارے نفس کا بھی یہی حال ہے ہم اسے (اللہ کی طرف) دوڑاتے ہیں چلتے چلتے ہم غالباً ہو جاتے ہیں (چونکہ ہمارا نفس مرغوبات ولذائی کا عاشق ہے) بس ادھر ہم غالباً ہوتے ہیں ادھر ہمارا نفس ہمیں لے کر واپس اپنی مرغوبات کی طرف جا چکا ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہمارا نفس مادیات اور مرغوبات کا عاشق ہے۔

بالآخر یہ ہوا کہ مجنون صورت حال کو سمجھ گیا کہ اونٹی کو اپنے بچے سے عشق ہے اس لیے اس کا آنا مشکل ہے تو مجنون یہ کہہ کر اونٹی سے اتر پڑا اور کہا کہ میں یونہی چلا جاتا ہوں کیوں کہ میرا اور میری اونٹی کا معموق جد اجداء ہے۔ (اس لیے ایک سمت پر سفر کرنا مشکل ہے۔) بہر حال یہاں جو روح کی سواری ہے یعنی جسم انسانی، تو جسم اور روح کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور خوشنودی کی طرف اور یہ سفر اس سواری کے ساتھ ہی طے کرنا ہو گا یہاں مجنون والے واقعہ کی صورت نہیں ہو سکتی کہ سوار سواری سے اتر کر جائے کیوں کہ یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لئے اللہ پاک نے شریعت بھیجی ہے اور قرآن و سنت کا قانون نازل فرمایا ہے جس میں روح اور جسم دونوں کی ضروریات، اور دونوں کے

تھا ضوں کے پورا ہونے کے راستے بتا دیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ چیز کہانی چاہئے ہے یہ نہیں کہانی چاہئے ہے کام کرنا چاہئے یہ نہیں کرنا چاہئے۔ ایسا ہی مثلاً یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے دغیرہ دغیرہ۔ اس طرح سے شریعت مطہرہ نے جسم اور روح دونوں (سے متعلق احکامات نازل فرمائیں) کے درمیان اعتدال پیدا فرمایا۔ (الہذا مکمل شریعت پر عمل کرنے سے دونوں کی ضروریات احسن و اکمل طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں اور دونوں کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں)

چھٹی مجلس

ہمیشہ طالب بن کر رہیں، کامل نہ بنیں!

اللہ تعالیٰ طلب والوں کو دیتے ہیں

(خطبہ اہمدادیہ کے بعد)

انسان کو ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہر چیز کے لیے ایک دستور، ایک قانون اور ایک سنت بنائی ہے۔ چنانچہ ”ہدایت“ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون اور دستور یہ ہے کہ ہدایت صرف اسی کو ہی ملے گی جس کو اللہ دیں گے ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں بس اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے (یعنی کسی اور کوئی نہیں اور سے ہدایت نہیں مل سکتی) اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر دیتے ہیں اور کن لوگوں کو دیتے ہیں۔ کیوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے بغیر ہدایت کے ہی چل بے ہیں مثلاً: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یا پچھا کافر تھے، آنحضرت نبی کریم ﷺ کے پچھا ابوطالب نے اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ اسے نبی کریم ﷺ سے محبت بھی تھی اور آپ ﷺ کی حمایت میں تواریخی اشھاتا تھا، (نیز یہ کہ خود حضور ﷺ کی بھی بہت زیادہ چاہت تھی کہ اسے ہدایت مل جاتی لیکن نہ ملی) اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا پیٹا اور ان کی ماں (یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی)، دونوں ہدایت سے محروم تھے کافر تھے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافر تھی۔ اس طرح پوری ایک تاریخ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تواب سوال یہ ہے کہ ہدایت کا اصول کیا ہے، ہدایت کے ملتی ہے؟ (جواب آرہا ہے اسے یاد رکھیں حضرت کا یہ بیان فجر کی نماز کے بعد کا ہے غالباً، چونکہ اس وقت نیند کا غلبہ

ہوتا ہے، اس لیے شاید بعض ساتھی اونگھر ہے تھے اس لیے حضرت نے فرمایا کہ) جاگ جائیں! کون سورہ ہا ہے، تم میں سے جو سورہ ہا ہے وہ ہاتھا اٹھائیں (یہ حضرت نے مزااح فرمایا ایسے وقت کی شفاقت بیانی کی حکمت یہ تھی کہ طبیعت خوش ہو کر رہشاش ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے سستی اور نیند کا غلبہ ختم ہو جاتا تھا)

ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ جس انسان کے اندر طلب ہوگی، ہدایت صرف اسی کو ہی ملتی گی۔ بس یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جس کے اندر بھی حق اور ہدایت کی طلب ہوگی تو ایسے طالب پر کبھی بھی ہدایت کا راستہ بند نہیں ہو گا۔ جبکہ بے طبیوں کو ہدایت نہیں ملتی گی، اسی وجہ سے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ داروں کو ہدایت نہیں ملی کیوں کہ ان لوگوں میں طلب نہیں تھی اور ہدایت کے لیے طلب شرط ہے، بغیر طلب کے قطعاً بھی ہدایت نہیں ملتی۔

یہ جو لوگ (یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل مذاہب والے) اپنے گروہ اور جماعتی خول میں بند رہتے ہیں، انہیں اس وجہ سے ہدایت نہیں ملتی کہ وہ جماعتی خول میں بند رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ترقی نہیں ہوتی (کیوں کہ وہ اپنے حال پر قائم اور مطمئن ہوتے ہیں) وہ لوگ اپنے جماعتی خول سے باہر ہی نہیں جھانکتے حالانکہ حق ان کی جماعت سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے (جبکہ ایسا ہی تھا یعنی حق ان کی جماعتی خول سے باہر ہی تھا) اس لیے یہودی یہودی ہی رہا کیوں کہ اس نے باہر جھانکا ہی نہیں یعنی ہدایت طلب ہی نہ کی۔ سو ہدایت بھی نہیں۔ البتہ جن لوگوں نے باہر جھانکا یعنی طلب کی تو انہیں ہدایت بھی نہیں۔

(اکثر یہ دیکھا گیا ہے) کہ ہدایت اکثر ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو پہلے سے زیادہ مذہبی نہ ہوں (یعنی کسی قدر خالی الذہن ہوں) اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی الذہن ہوتے ہیں، پہلے سے کسی دائرے میں بند نہیں ہوتے اس لیے وہ فوراً حقائق قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ اس وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے کہ وہ کافی عرصہ ایک ہی بات پر رہ کر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہودی (وقت کے پیغمبروں علیہم السلام کے جواب میں) یہی بات کہتے تھے: (جیسا کہ قرآن نے

گواہی دی ہے کہ یہود کہا کرتے تھے:

فُلُوْبُنَاغْلُفْ (البقرہ: ۸۸)

”ہمارے قلوب محفوظ ہیں۔“ (بیان القرآن)

اصلی بات یہ تھی کہ ان میں (یعنی یہودیوں میں) حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ تھی جیسے کہ راکھ انگاروں سے آگ نہیں پکڑتی (انگارے انگاروں سے آگ لے لیتے ہیں جب تھوڑی ہو اگلتی ہے یا کوئی پھونک مارتا ہے کہیں اگر کچھ انگارے ہوں اور باقی راکھ ہو تو چاہے کوئی لاکھ پھونک ہی کیوں نہ مارے تب بھی راکھ آگ نہیں پکڑے گی کیوں کہ راکھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں) تو اس میں انگاروں کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ تصور راکھ کا ہی ہے کیوں کہ اس میں آگ قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے اپنے ضمیر کو راکھ کر دیا تو وہ ہدایت کی شمعوں سے روشن نہیں ہو سکتا۔ بہر حال! آپ ہمیشہ طالبِ بن کر رہیں، ترقیاتِ جاری رہیں گی ترقی خواہ دنیاوی کام میں ہو یا اخروی کاموں میں بہر حال ترقی طلب سے ملتی ہے طلب والوں کو ملتی ہے میرا بھی تجربہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہو گا کہ مثلاً جو شخص ایک بار عالم ہو گیا، درس نظامی سے فارغ ہو گیا (پاکستان میں تقریباً ہر سال ہزاروں طلباء عالم بنتے ہیں تقریباً سانچھے ہزار کے لگ بھگ ہوتے ہیں جن میں سے اکثر فراغت کے بعد اپنی حالت پر قناعت کرتے ہیں کہ بس جو پڑھاو ہی پڑھاتے رہتے ہیں اس لیے وہ ترقی بھی نہیں کرتے ہیں البتہ کچھ تھوڑے فارغ التحصیل طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھا ہے اس لیے ہم مزید سیکھیں گے تو وہ کتنا بیس دیکھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں (یہاں تک کہ وہ حیران کن ترقیات حاصل کر لیتے ہیں، ترقیات اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ طالب رہتے ہیں) جب تک آدمی یہ کہتا رہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تب تک وہ طالب رہتا ہے اسی طرح یہ کہ کوئی سوچے کہ میرے اندر کمی ہے روحانی، اخلاقی، دینی غرض کسی بھی طرح کی کمی ہے تو ایسا شخص ترقی کرے گا۔

اور اگر کوئی کسی بھی حوالے سے خود کو پورا خیال کرے گا تو اس حوالے سے اس کی ترقی رک

جائے گی۔ کیوں کہ جو آدمی خود کو کم سمجھتا ہے تو وہ آگے بڑھنے کا آرزومند ہوتا ہے اس لیے اسے ترقی بھی ملتی ہے اس کے برخلاف جو آدمی خود کو پورا خیال کرے گا تو وہ خود کو آگے بڑھنے کا آرزومند ہی نہیں سمجھے گا اس لیے اسے ترقی بھی نہیں ملے گی تکبر میں (منجلہ دیگر بڑے بڑے نقصانات کے) ایک نقصان یہ بھی ہے کہ متنکبر آدمی خود کو پورا سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے وہ آرزومند بھی نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے اس پر آگے بڑھنے کے راستے بھی نہیں کھلتے۔

حق تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں

حق تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ (۱) طلب۔ (۲) کوشش۔

ایک ہے طلب حق اور دوسری چیز ہے کوشش۔ طلب حق کا درجہ پہلے ہے کیوں کہ طلب ہو گی تو وہ طلب اس کو کوشش پر آمادہ بھی کرے گی۔

واقعہ

میرے یہاں (خانقاہ دارالایمان والتحقیٰ کربونگہ شریف میں) ”تیرہ“ (صوبہ سرحد کے ایک علاقے کا نام ہے) سے دو یوز ہے آتے تھے جوڑ میں۔ ان میں سے ایک کا تو انتقال ہو گیا ہے جبکہ دوسرے ابھی حیات ہیں (یہ 2008 ستمبر تک کی خبر ہے) ان دونوں یوڑھوں سے متعلق ان کے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ دو بابے بستراٹھا کر جنت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کہیں جنت مل جائے اور وہ دونوں واقعی ایسے ہی تھے وہ کہتے تھے کہ بس کہیں نہ کہیں جنت مل جائے۔

ان میں سے ایک بزرگ ایک مرتبہ یہاں آئے تھے جوڑ کے موقع پر (رمضان کا مہینہ تھا، ایک رات انہوں نے) سحری کھائی، روزہ رکھا، فجر کی اذان پر روح پرواز کر گئی (اَنَّ اللَّهُ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ) پھر اسے ہم نے وہاں تیرہ پہنچایا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ

دو بزرگ بڑی عمر ہو جانے کے باوجود اخیر دم تک کوشش کرتے رہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہئے۔
 توجہ طلب ہو گی ترقی ہو گی۔ پھر طلب جتنی شدید ہو گی ترقی بھی اتنی ہی شدید ہو گی لیکن
 جب تم قانون ہو جاؤ گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، بلکہ ترقی ہی نہیں رکے گی ساتھ تنزل بھی
 شروع ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ میں وہی (اپنی سابقہ حالت پر ہی) رہوں گا۔ کیوں دنیا میں
 یہی دو چیزیں ہیں یا اوپر جاؤ گے یا نیچے آؤ گے (سوائے ایک مقام کے کہ وہاں آدمی ٹھہر جاتا ہے)
 مثلاً آپ ایک گینداٹھائیں اور پوری قوت کے ساتھ اوپر کی طرف اچھائیں تو جتنی دیر تک تمہاری
 قوت اس کے تعاقب میں ہو گی وہ اوپر چلتی چلی جائے گی لیکن جوں ہی وہ اسیتم ختم ہو گی تو پھر گیند
 وہاں فضا میں رکے گی نہیں بلکہ نیچے آنی شروع ہو جائے گی۔ سوائے ایک مقام کے کہ وہاں پہنچ کر
 گیند ٹھہر جائے گی ہمارے لیے وہ مقام ”موت“ ہے، موت ہمیں ایک حال پر ٹھہرادے گی۔
 خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو آپ کا کوئی بھی حال خواہ وہ دینی ہو یا روحانی، اخلاقی ہو یا علمی
 بہر صورت وہ تمہیں قانون نہ کر دے (کہ بس مثلاً اب میں پورا ہوں) بلکہ ہمیشہ ہر اعتبار سے اپنے
 آپ کو کم سمجھیں اور طالب رہیں کہ مجھے اور ترقی مل جائے۔ اس طرح کرنے سے آپ آگے
 بڑھتے رہیں گے (اور یہ قاعدہ کہ طلب سے ترقی ملتی ہے صرف دینی امور میں ہی نہیں چلتا بلکہ
 دنیاوی امور میں بھی یہی قاعدہ ہے) دنیا میں بھی یہی ہے کہ جو مزید کا طالب ہو گا وہ ترقی کرے
 گا، اور جو مزید کا طالب نہیں ہو گا وہ گر جائے گا۔

واقعہ

میرے ایک عزیز ہیں ان کے ایک دوست ہیں جن کے والد صاحب بڑے مالدار آدمی
 تھے انتقال کر گئے ساری دولت بیٹے کو میراث میں ملی تو وہ پیسوں کو بڑا اڑانے والا شخص تھا چونکہ
 مالدار تھا اس لیے فکر بھی نہ تھی بس کھاتا گیا کھلاتا گیا، مال اڑاتا رہا۔ ان سے کسی (خیر خواہ) نے کہا
 کہ اللہ کے بندے کاروبار کرو مال کو ترقی دو تمہارے والد نے محنت کی (تم بھی محنت کرو) اس نے

ان (مشورہ دینے والے) کو یہ جواب دیا میرے دادا نے کمایا تھا آخر کار میرے والد کے لیے چھوڑ کر چل بے۔ میرے والد نے اور زیادہ کمایا خود بھیں کھایا (آخر کار) وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب (سارا مال میرے پاس آ گیا ہے) میں بھی نہ کھاؤں تو کھائے گا کون؟ اس کی (جاگیر میں) اسلام آباد میں کوٹھیاں تھیں سب بیج کر کھالی تھیں۔ تو ایسا آدمی کیا ہو گا کنگال ہوگا۔ بہر حال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملے گا طلب کے ساتھ۔ اور ہدایت بھی طلب سے ہی ملتی ہے۔ کبھی بھی اس بات پر دھوکہ نہ کھائیں کہ مثلاً میں بڑے باپ کا پیٹا ہوں، یا یہ کہیں اچھی جماعت کا رکن ہوں یہ بات آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کیوں کہ نبی کریم ﷺ کی جماعت سے اچھی جماعت کس کی ہوگی (کسی کی ہو ہی نہیں سکتی) پھر بھی اس میں رہنے والے لوگ بعض مرتد اور بعض منافق ہیں (اگر چہ وہ حقیقتاً آپ ﷺ کی جماعت کے افراد تھے ہی نہیں بس ظاہراً آپ ﷺ کی جماعت سے وابستہ تھے) اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھیں کہ ہمیشہ طالب بن کر رہیں کامل نہ ہیں۔

ساتویں مجلس

دل کی آنکھ مجاہدے سے کھلے گی

آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پاسکتیں

(خطبہ اہتمامیہ کے بعد) کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ احمد و صمد ذات کے لیے کوئی چیز جاپ نہیں بن سکتی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف ہماری آنکھیں اس کو نہیں پاسکتیں یعنی ہماری آنکھوں کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ اللہ رب العزت کی عظیم ذات کو دیکھ سکیں باقی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جاپ نہیں ہے۔ انسان کا دل اپنے رب کو پاتا ہے مگر دل انداھا ہو جائے تو پھر اس اندھے پن کی وجہ سے وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں دیکھتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو دل اس مخلوق میں اللہ کی طاقتون کا مشاہدہ نہیں کر سکتا تو وہ دل انداھا دل ہے۔ ایسے دل کو قرآن کریم کی زبان (اصطلاح) میں ”اعمی“، دل کہا جاتا ہے۔ اعمی کا مطلب ہے انداھا۔ اس دنیا میں انداھا ہر ہا آخرت میں بھی انداھا ہی رہے گا کیوں کہ اس نے پوری کائنات کو تو دیکھا لیکن اس کائنات میں اللہ کی طاقت اور قدرت کو نہیں دیکھا۔ بہر حال اس پر میں نے پورا بیان کیا تھا (جو کہ آئندہ کے صفات میں آرہا ہے) کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل انداھا ہوتا ہے۔

آج آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ مخلوق میں خالق کا مشاہدہ نہ کریں تو آپ مخلوق کے غلام بن جائیں گے مخلوق کے تابع ہو جاؤ گے کیوں کہ تمہیں ایسی صورت میں پھر مخلوق سے ہی ملتا ہوا نظر آتا ہو گا اب ظاہر ہے کہ جس سے ملتا ہوا نظر آئے گا غلامی اسی کی کرے گا۔ (اس بات کو مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی غلام کو کچھ رقم بھجوائے وزیر کے ہاتھوں، اب جب

وزیر وہ مال لے کر اس غلام کے پاس جائے گا تو اب اگر غلام کو یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ رقم کس نے بھیجی ہے تو وہ لا محالہ وزیر کا احسان مند ہو گا نہ کہ بادشاہ۔ یعنی وہ غلام بادشاہ کے غلام کے بجائے وزیر کا غلام بن جائے گا۔ ایسا ہی جب دل کی آنکھ اندر ہی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ مخلوق کے غلام بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ ان سے اپنے رب کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی طاقتون کا مشاہدہ کرتے ہیں تو مخلوق تمہارے لیے سخز ہو جائے گی۔

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ كَانَ

”جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔“

آپ جب خدا کے ہوں گے یعنی اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں گے یعنی آپ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوں، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو پھر مخلوق آپ کی غلام بن کر رہے گی۔ لیکن جب تم مخلوق میں خالق کی قدرت و طاقت کا مشاہدہ نہیں کرو گے تو آپ مخلوق کے غلام بن جاؤ گے تو جب آپ مخلوق کا غلام بن جائیں گے تو پھر خالق کی حقیقی غلامی اور بندگی سے تم محروم رہ جاؤ گے اس لیے دل کے اندر ہے پن کو دور کرنے کی ضرورت ہے دل کا اندر ہاپن دور ہو گا مجاہدے سے اس لیے اب یہ سمجھیں کہ مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟

مجاہدہ، لذات، مأا لوفات، مرغوبات اور نفسانی حرام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی مرغوبات اور نفس کی خواہشات وغیرہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، فرائض واجبات و مستحبات پر چلنا اسی طرح جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے بچنا، منع ہونا، اس کے لیے مشکلات کو اٹھانا اور جدوجہد کرنا۔

(یہ ہے مجاہدہ)

ایک عاشق اور ایک گھڑے کی گفتگو

مولانا ناروم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ وہ لڑکی

کنویں سے روزانہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کنویں کم ہوتے تھے عام طور سے گھروں میں کنویں نہیں ہوتے تھے بلکہ دور دور کہیں کنویں اور کہیں چشمے ہوا کرتے تھے لوگ وہاں سے پانی بھر کر گھروں میں لايا کرتے تھے) خیر وہ عاشق نوجوان تھا بڑا شر میلا۔ بس راستے میں بیٹھ کر صرف اس لڑکی کو دیکھتا رہتا تھا، اس لڑکی کے ساتھ کوئی سلام کلام نہ کر سکا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اس لڑکے نے (اتنی ہمت کی کہ) اس گھرے کو مخاطب کیا جو اس لڑکی کے بغل میں تھا مخاطب کر کے وہ نوجوان کہنے لگا:

”تم بہت خوش قسمت ہو کہ میرے محبوب کی گود میں ہو۔“ چونکہ لڑکا شر میلا تھا اس لیے صرف گھرے کوہی (بمشکل) یہ بات کہہ سکا تو گڑھے نے بزمیں حال (اسے یہ جواب دیا کہ میں جو بغل میں ہوں (اور مقام قرب سے لطف انداز ہوں) تو یونہی بغل میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں نے بہت مشقت اٹھائی ہے۔ پہلے کہا رئے مٹی کو جمع کیا، پھر پانی میں ڈالا، پھر پاؤں سے روندا بہت مشکلیں مجھ پر گزریں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھے گھڑا بنا لیا چونکہ اس وقت میں خام تھا اس لیے اس نے مجھے گرمی میں رکھا، سخت کڑی دھوپ میں رکھا، میں نے وہ دھوپ برداشت کی، اس کے بعد بھی مجھے نہ چھوڑا بلکہ پھر تو مجھے اور بہت سارے گھروں کے ساتھ آگ میں ڈال دیا جب میں خوب پک گیا تو اس نے مجھے انگلی مار کر ٹھوک بجا کر چیک کیا (چونکہ میں پک چکا تھا، مضبوط بھی ہو گیا تھا اس لیے اس ٹھوک سے کہا رکو میری چھکلی کا اندازہ ہو گیا اور اس نے مجھے پاس کرتے ہوئے کہا) ٹھیک ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ محبوب کی گود میں آگیا۔

مقصود اس قصے سے یہ ہے کہ یونہی کہیں بیٹھ کر خالی دیکھتے رہنے سے خدا نہیں ملا کرتا بلکہ اس کے لیے آدمی کو مجاہدہ کرنا چاہئے، گرمی، دھوپ، بیاس غرض یہ کہ اس طرح کی مشقتیں انسان برداشت کرتا ہے اور لذ اندز کو قربان کرتا ہے تب جا کر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اپنے رب کے آغوشِ رحمت میں چلا جاتا ہے۔

آٹھویں مجلس

حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق

مشہور ایک غلط اور بے بنیاد واقعہ

انبیاء کرام علیہم السلام کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے

(خطبہ صدارت کے بعد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأُوحِيَ إِلَى نُوحَ أَنَّ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمَكَ إِلَامَنْ قَدَامَنْ فَلَا تُبْشِّرْ
بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَغْيِنَّا وَخِينَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ
ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ ۝ (ہود: ۳۶، ۳۷)

"اور نوح کے پاس وحی بھی گئی کہ سوا ان کے جو (اس وقت تک) ایمان لا پکھے ہیں اور کوئی (نیا) شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا سو جو کچھ یہ لوگ (کفر و ایذ و استہزاء) کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو۔ اور (تم اس طوفان سے بچنے کے لیے) ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے کشتنی تیار کرلو اور (یہ سن لو کہ) مجھ سے کافروں (کی نجات) کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا (کیوں کہ) وہ سب غرق کیے جائیں گے۔" (بیان القرآن)

(مذکورہ بالاد دو آیات میں) حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں وحی کی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا (جتنے لوگ ایمان لا پکھے تھے ان کے علاوہ لوگ مراد ہیں) اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "فَلَا تُبْشِّرْ
بِمَا كَانُوا

یَفْعُلُونَ،“ کا مطلب یہ ہے کہ (اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ) آپ غم نہ کریں ان کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں بلکہ آپ ہمارے رو برو اور ہمارے حکم سے کشتی بنائیں۔ اور ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ ہماری مرضی اور ہے اور خدا کی مرضی اور ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مرضی تو اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ ”اب تمہاری قوم میں سے ایمان لانے والا کوئی نہیں“، اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے غرق کیے جانے کی اطلاع بھی دی گئی اور ساتھ ہی ظالموں کے حق میں دعا کرنے سے بھی آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا اب حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے؟ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ موجود لوگوں میں سے مزید کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ اب اگر یہ کافر لوگ باقی رہیں تو ان کی اولادیں بھی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ وہ بھی کافر ہی ہوں گے۔ توجہ تھوڑے بہت مسلمان لوگ ہیں ان کی نیک اولادوں پر کافروں کی اولاد غالب آ کر انہیں بھی کافر بنادے گی اور جب کہ ان کافروں کے ہارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائچکے ہیں:

انہم مغرقون (ہود: ۷۳)

”وَهُبَّ غَرْقٌ كَيْ جَائِمٌ كَيْ“ (بیان القرآن)

اب چونکہ پیغمبر علیہ السلام کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع اور اس میں فنا ہوتی ہے (جیسے کہ عرض کیا گیا ہے) تو اس لیے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہی چاہا کہ یہ کافر لوگ غرق ہی ہوں (اس لیے کہ اللہ ان کا غرق ہونا چاہتا ہے) چنانچہ اس سلسلے کی حضرت نوح علیہ السلام کی بدعما کے الفاظ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ نوح میں ذکر کیے ہیں: چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَالَ نُوْحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِ ۵۰ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ

يَضْلُّو اِعْبَادُكَ وَلَا يَلِدُو اِلَّا فَاجِرُ اَكْفَارُ ۝ (نوح: ۲۶، ۲۷)

”اور نوح (علیہ السلام) نے (یہ بھی) کہا کہ اے میرے پروردگار! کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ (کیونکہ) اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہ ہی کر دیں گے اور (آگے بھی) ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔“
(بیان القرآن)

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَإِذَا بَشَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنْ طَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

(البقرہ: ۱۲۳)

”اور جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا ان کے پروردگار نے چند باتوں میں اور وہ ان کو پورے طور بجا لائے (اس وقت) حق تعالیٰ نے (ان سے) فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔“ (بیان القرآن)

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سے آزمایا تو وہ واقعی پورے پورے اترے گھر (چھوڑ دینے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو گھر) چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاندان چھوڑا وقت کے بادشاہ کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے لیے آگ میں کو دے، یہوی اور بچے کو (اکلوتے بچے کو) مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں چھوڑا، بیٹے کی گردان پر چھری چلانے کا حکم ہوا تو اس پر چھری چلا دی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی دوسری صورت میں قبول کی۔ بہر حال جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے (بطور انعام کے) فرمایا:

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (البقرہ: ۱۲۳)

”میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔“ (بیان القرآن)

اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں امام، پیشوائنا تا ہوں۔ لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے (آپ علیہ

السلام مسلمان بنئے کا نمونہ ہوں گے یعنی) مسلمان ایسے ہوتا ہے (جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے) بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش خبری دی کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی:

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ (البقرہ: ۱۲۳)

”انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کسی کو (نبوت دیجئے)۔“ (بیان القرآن)
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا:

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرہ: ۱۲۳)

”میرا (یہ) عہدہ (نبوت) خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔“ (بیان القرآن)
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک ہوں گے آپ کی اولاد میں سے انہیں ہم امامت دیں گے لیکن جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں ملے گی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فنا فی اللہ ہونا دیکھیے

جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو (اماamt) نہیں دیتے تو (اس سے آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں بھی کافر لوگوں کو نہیں دیتے ہوں گے چنانچہ انہوں نے کسی اور موقع پر ایک اور دعاء مانگی ہے جس کا انداز آپ ملاحظہ فرمائیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا دیکھیں جس میں وہ خود ہی ظالموں کو الگ کر دیتے ہیں:

وَإِذْ قَالَ إِنْرَاهِمُ رَبِّيْ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا مَنَاؤْرُزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَوَاتِ مَنْ أَمْنَ مِنْهُمْ
(البقرہ: ۱۲۶)

”اور جس وقت ابراہیم (علیہ السلام) نے (دعائیں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک (آباد) شہر بنادیجئے امن (وامان) والا اور اس کے بیٹے والوں کو سچلوں سے بھی

عنایت کیجئے ان کو (کہتا ہوں) جو کہ ان میں سے (اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں) دیکھیے اس دعا میں پھل میوے وغیرہ صرف مسلمانوں کے لیے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس دنیا میں تو ہم کافروں کو بھی دیں گے چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتَعَهُ قَلِيلٌ لَّا هُمْ أَضْطَرُرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ (البقرہ: ۱۲۶)

”حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کو جو کہ کافر ہے سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب

آرام بر تاؤں گا پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا۔“ (بیان القرآن)

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن و ای جگہ بنادیں، اپنے میوؤں میں سے یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے دیں، رزق دے دیں، آگے فرمایا کہ جو مسلمان ہو (یہ اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے ایک دعا میں جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں مل سکتی اس بناء پر اب اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں انہیں بھی تھوڑا دیں گے اس دنیا میں کیوں کہ یہ معاملہ رزق کا ہے اس لیے دیں گے اور وہ معاملہ امامت کا تھا اس لیے نہیں دیں گے۔ کیوں کہ امامت مسلمانوں کو ہی ملتی ہے۔ باقی دنیا کفار کو بھی ملتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذوق دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں ملائی ہوئی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں علماء کرام کو درخواست کروں گا (کوہ خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیں) اسی طرح جو لوگ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لگے ہوئے ہیں، لوگوں میں وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ لوگوں کو ایسے وعظ و اقتداء سے بچائیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے عقائد خراب ہو جاتے ہوں۔

بہت سے مقررین، خطباء، واعظین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وعظ کرتے ہیں، ایک بات لوگوں کو تھیک بتاتے ہیں جبکہ دوسری طرف سے لوگوں کے عقائد (دانستہ، یا غیر دانستہ طور پر)

خراب کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کوز کام ہوا اور ڈاکٹر اسے ایسا یہ نکلے لگا دے جس سے اس کا زکام تو ٹھیک ہو جائے لیکن دوسرا طرف مریض (اس یہ نکلے کی وجہ سے) کینفر کا مریض بن جائے تو اس ڈاکٹر نے اچھا کیا یا برا کیا۔ یہ ڈاکٹر سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں اگر اچھی حکومت ہو تو ایسون کو پھانسی دی جائے گی (اس لیے خطباء واعظین اور مقررین حضرات جب بیان کریں، وعظ کریں، تقریر کریں تو واقعات وغیرہ جو سنانے ہوں ان کی اچھی طرح جانچ پڑتا ہے کر لیا کریں کہ کہیں وہ غلط اور بے بنیاد تو نہیں ہے کیوں کہ واقعات کے حوالے سے ایسے کہیں بے شمار غلط اور بے بنیاد واقعات مشہور ہیں جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں اس لیے واقعات کے باپ میں خوب احتیاط سے کام لیں اور صرف ثابت و مستند واقعات ہی لوگوں کو سنائیں۔ ذیل میں ایک غلط اور بے اصل و بے بنیاد واقعے کی نشان دہی کی جاتی ہے نیز اس کا ہر طرح سے غلط ہونا بھی ثابت کیا جاتا ہے ملاحظہ ہو۔)

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک افسانہ (نما واقعہ) مشہور ہے (واقعہ سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح مخوذ نظر رکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا میرے حکم سے میرے رو برو کشتنی بناو! اب جو افسانہ (نما واقعہ) سنانے والے لوگ ہیں وہ یہ غلط واقعہ اس لیے لوگوں کو سناتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو (حالانکہ وہ بیچارے یہ بات نہیں جانتے کہ جھوٹے واقعات سے نور نہیں پیدا ہوتا بلکہ جھوٹ کی نحودت کی وجہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے) چنانچہ یہ غلط واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ واقعہ جو لوگ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں:

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ مٹی کے برتن بناؤ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کمہار تھے، انہوں نے مٹکے بنائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب ان سب مٹکوں کو توڑ ڈالو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام (نعواذ باللہ) ان مٹکوں کو توڑنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں ان مٹکوں کو کیسے توڑو؟ یہ تو میں نے بڑی محنت سے

ہنانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے پوری دنیا بتاہ کروادی (نَعُوذُ بِاللَّهِ كَوْيَا كَهْ خُودُ اللَّهِ تَعَالَى لَوْگُوں کو غرق نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ سب کام کرنے پڑے العیاذ بالله)

حالانکہ میں نے کتنے قبیقی انسان بنائے تھے (آپ کے کہنے پر تو میں نے ان کو ختم کر دیا اب آپ ہمارے کہنے پر) مخلوقوں کو بھی نہیں توز سکتے (العیاذ بالله) گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر ترس آیا کہ تم اپنے مخلوقوں کو نہیں توز سکتے اور میرے گھرے (یعنی بندے) تزوادیے۔ اب یہ بات کافروں کو توزہ دیتی ہے لیکن اس سے ایمان کا کبڑا ہو جائے گا۔ اس واقعے کا دلوں پر جواہر ہو گا اور اس سے جو عقیدہ اخذ کیا جائے گا (وہ سراسر قرآن و سنت کے اصولوں کے برخلاف ہو گا۔ جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ ہو گا۔)

حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور اس

غلط واقعہ کے غلط ہونے کی نقلی اور عقلی وجوہات

☆ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ قرآن کریم کے مخالف ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (جس کا مفہوم یہ ہے کہ

”میں نے ان سے کہا کہ میں اس قوم کو بتاہ کرتا ہوں۔“ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام

۱۷۰ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحَ أَنَّ لَنِّي يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمَكَ الْأَمَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا يَتَبَتَّئُنَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۱۷۱
الْفُلَكَ يَا عَيْنَنَا وَرَحِينَا وَلَا تَخَاطِنَنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرِفُونَ ۱۷۲ (ہود: ۳۶)

(ترجمہ) اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے (اب اور کوئی) ایمان نہیں لائے گا جز اُن کے جو (اب تک) ایمان لا پچے سو جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس پر کچھ حکم نہ کرو اور تم کشی ہماری گمراہی میں اور ہمارے حکم سے تیار کرو اور مجھ سے ان لوگوں کے باب میں گفتگو نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ذوب کر رہیں گے۔ (تفسیر ماجدی)

نے بدوا فرمائی ہے نہ کہ پہلے۔ (حضرت نے اس اشنا میں فرمایا کہ) میں نے یہ واقعہ ہنگو میں ایک صاحب سے سنا جنہوں نے یہ واقعہ وعظ کے دوران سنایا۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا بھی (کہ یہ واقعہ غلط ہے دلائل بتائے) تو اس نے کہا کہ واقعی اس میں بڑی گز بڑ ہے۔ (پھر اس نے پریشان ہو کر کہا) لیکن ہم تو سناتے رہے۔ میں نے کہا ازالہ کرویں (یعنی اب آئندہ نہ سنا کیں) ☆ دوسری بات یہ کہ اگرچہ کہا رہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن تم کیوں (بلا تحقیق) پیغامبر کو کمہار بناتے ہو۔

☆ تیسرا بات یہ ہے کہ اس واقعہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بڑی کمزوری معلوم ہوتی ہے (کہ مثلاً نوح علیہ السلام نے اللہ کے لیے منکر بھی نہ توڑے العیاذ بالله) عام مسلمان بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم پر سر قربان کرتے ہیں جبکہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ منکر توڑنے کا حکم دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے منکر بھی نہ توڑے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اگر خواب بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹھ کو ذبح کر رہے ہیں تو صحیح اپنے بیٹھ کو صحیح ذبح کرنے لے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی درخواست نہیں کرتے کہ اے اللہ آخر میرے بچے کا قصور ہی کیا ہے؟ اور وہ بھی نہیں پوچھتے (کہ مثلاً کیوں ذبح کروں وجہ پوچھنا محبت کے منافی ہے کہ تم نے اشارہ پایا پھر بھی پوچھتے ہو۔ صرف بیٹھے سے پوچھا کیوں کہ ذبح تو انہیں کرنا تھا۔ وہ بھی پیغمبر تھے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیارائے ہے کیوں کہ میں نے تو ایسا خواب دیکھا ہے تو بیٹھے نے یوں جواب نہیں دیا کہ آپ اپنا خواب پورا کریں بلکہ اس نے کہا:

یَا أَبْتِ افْعُلُ مَاتُؤْمَرُ (الصَّفَّةُ: ۱۰۳)

”وَهُوَ لَكَ إِبَاجَانَ آپَ كَوْ جَوْ حَكْمٌ هُوَ اَبَهُ آپَ (بلا تامل) كَيْجَنَ ” (بیان القرآن) بیٹھے نے یہ بھی نہ پوچھا کہ ابا جان آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میری غلطی کیا ہے تاکہ میں اپنی اصلاح تو کروں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اس حد تک اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈبوئی ہوتی تھی۔ ایک طرف تو یہ حال ہے جب کہ دوسری طرف

یہ حال ہے کہ ملکہ نہ توڑے۔ (نعوذ بالله)

(حقیقت تو بہر حال ایسی نہیں ہے کیوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے) اگر یوں ہوتا تب تو یہ لازم آتا کہ نعوذ بالله حضرت نوح علیہ السلام سے تو ”ایا ز“ بھی اچھے تھے کہ جس نے اپنے بادشاہ محمود کے کہنے پر ایک فتحی موتی کو صرف اس لیے توڑا تھا کہ میرے آقا کا حکم ہے۔ ۱ جبکہ نعوذ بالله حضرت نوح علیہ السلام چند معمولی ملکے بھی اللہ کے لیے نہیں توڑ سکتے تھے۔

☆ چوتھی بات یہ کہ اس سے لوگوں کو تاثر ملے گا کہ گویا (العیاذ بالله) اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا علم نہیں اس لئے کبھی کبھی اپنے کاموں پر بعد میں پشیمان بھی ہوتے ہیں۔

☆ پانچویں بات یہ کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قوم نوح کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دباؤ کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا۔

☆ چھٹی بات یہ کہ یہ واقعہ قرآن مجید کی صریح آیتوں کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے گزر چکا اب اس غلط واقعے سے امت میں کس قدر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کا آپ اندازہ لگا کریں اور ہمیشہ ایسی باتوں اور واقعات کے سنانے سے احتراز کریں جن سے لوگوں کے عقائد بگڑ جانے کا خدشہ ہو۔

نویں مجلس

ہمیشہ ثابت اور تعمیری سوچ رکھا کریں

سوچ کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہیں

(خطبہ اہمدادیہ کے بعد)

کسی چیز کو دیکھنے میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں مثلاً کوئی بیماری ہو، کوئی معاملہ ہو تو ان میں دیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

☆ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن فوراً منفی اور تخریبی نتیجہ نکالتا ہے۔

☆ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے ذہن فوراً ثابت نتیجہ نکالتے ہیں۔ ان دونوں کے خیالات میں (نتیجہ کے اعتبار سے) بہت بڑا فرق ہے۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہوا وہ کہتا ہے: ”میں بیمار ہوا، اب تو میں ختم ہی ہو گیا، بس میرے لیے تواب قبر ہی کھودو۔ اس طرح کر کے فوراً منفی نتیجہ نکال لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے (جو ثابت باقی میں سوچتا ہے) اب مثلاً وہ بھی بیمار ہوا (تو وہ اپنی بیماری سے بھی ثابت سوچ نکالے گا)

ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ

کی بیماری کا ایک سبق آموز واقعہ

ہمارے اکابر میں سے ایک بڑے بزرگ عالم کو بخمار تھا۔ ایک دوسرے عالم نے ان کی عیادت کرتے ہوئے حال دریافت کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا:

”الحمد للہ! ٹھیک ہوں، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک، ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، (غرض یہ کہئی

ساری اچھی حالتیں گنوالینے کے بعد فرمایا) بس ذرا سابخار ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ ”اب دیکھیں یہ ثابت سوچ ہے۔ اسی طرح جو آدمی لوگوں کے اندر خوبیاں ڈھونڈتا ہے (خود ان کے اندر بھی خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں)

پیر مسروت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ

ایک مرتبہ پیر مسروت شاہ صاحب اور میں کہیں جا رہے تھے (اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے) تو راستے میں ہمیں ایک آدمی ملا جو بہت اچھے انداز میں سوال کر رہا تھا (بھیک مانگ رہا تھا) لب والجہ بڑا صاف ستر رہا، مجھے تو وہ شخص بڑا عجیب لگا۔ لیکن پیر مسروت شاہ صاحب (رحمہ اللہ تعالیٰ) نے مجھ سے کہا کہ اس آدمی میں ایک بڑی خوبی ہے میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی آواز بڑی اچھی ہے اگر یہ دیندار ہو کر تقریر سکھے تو بہت اچھی تقریر کر سکے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے ثابت سوچ۔

ایک معذور شخص کی عجیب شکرگزاری

ایک انتہائی معذور شخص (جو کہ ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں سے ناپینا تھے) سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی پیر مسروت حسین شاہ صاحب بحیثیت پروفیسر شعبہ اگریزی ایک مثالی پروفیسر ہے چونکہ تعلیم کیڈٹ کالج کوہاٹ اور گورنمنٹ کالج لاہور جیسے مثالی اداروں کی تھی اس پرمزید ڈیڑھ سال کا انگلستان کا قیام پھر کہہ شد مشق پروفیسر مظہر علی خان کی زندگی کے بالکل آخری سالوں کی شاگردی اسی لئے اگریزی کے مضمون کی مثالی مہارت رکھتے تھے۔ شاہ صاحب کو اپنی ملازمت کے دورانیہ میں تین سال اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا یہ دورانیہ ۲۰۰۲ء فروری ۱۹۹۹ء سے ۲۸ جون ۲۰۰۲ء تک ۳ سال چار میئے چوٹیں دن تھا۔ (شاہ صاحب کی بہت خدمات تھیں لوگوں کے اصلاح اور ترقی کی فکر بھی کرتے رہے شاہ صاحب کے دو بیٹے ہیں ایک مصعب دسویڈ اکٹھ معاذ جنہوں نے بیماری کی حالت میں شاہ صاحب کی خوب خدمت کی) آخر ایک دن جانے کا مقرر ہے تین رمضان ۱۴۲۴ھ بروز پیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ درجات پاندہ فرمائے آمین

میری ساتھ ہوئی ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ کیسے اللہ کی مہربانی زیادہ ہوئی ہے آپ کے ساتھ (حالانکہ بظاہر تو آپ بڑے معدود نظر آتے ہیں) انہوں نے (وضاحت کرتے ہوئے) کہا کہ دیکھیں میں سانس لیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ایسا ہی میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مستفید ہوتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور یہ جو میری آنکھیں نہیں ہیں (یہ بھی بظاہر اگرچہ تکلیف و پریشانی ہے لیکن درحقیقت یہ بھی اس اعتبار سے نعمت ہے کہ) اس سے میں آنکھ کے گناہوں سے محفوظ ہوں۔ آنکھیں ہوتیں تو آنکھوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوتی۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں ہوتے تو ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتیں۔ اب شاید میں ان اعضاء کی (بالفرض اگر) ذمہ داریاں پوری نہ کرتا تو تو دنیا میں رسوائی، اور آخرت میں عذاب ہوتا۔

اب جب کہ میرے یہ اعضا نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچاتا ہے، اب (اس حالت میں) مجھے حلال رزق ملتا ہے، ہاتھ پاؤں ہوتے تو کیا معلوم اگر میں حرام میں پڑ جاتا تو؟ ایسے ہی اگر آنکھیں ہوتیں اور میں اس سے بدنظری کرتا پھرتا۔ اور اسی طرح میرے جسم میں اور طاقتیں ہوتیں تو شاید میں ان کے گناہ کرڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں کے بد لے قلبی نعمت نصیب فرمائی ہے کہ میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حلاوت ڈال دی، ذکر کی حلاوت ڈال دی اور اللہ نے اپنی محبت ڈال دی، اور میرے اعضاء ہونے کی وجہ سے (بعض بڑے بڑے) اعمال کا مجھے ثواب بھی ملتا ہے مثلاً میرا دل چاہتا ہے کہ میں چہاڑ کو جاؤں، لیکن نہیں جا سکتا، مفت ثواب مجھے مل جاتا ہے کیوں کہ ثواب نیت پر ملتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ثابت سوچوں والے کہاں چلے گئے۔ جبکہ منفی سوچ والے کا ذہن ہمیشہ صرف برائی کی طرف جائے گا وہ فوراً منفی نتیجہ نکالے گا۔ مثلاً ایک غصے والا آدمی ہے تو منفی سوچ والا اسے دیکھ کر منفی نتیجہ نکالے گا کہ یہ برآدمی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ اسی غصے والے آدمی کو ثابت سوچ والا آدمی دیکھے گا تو وہ یوں نتیجہ نکالے گا کہ یہ بڑا پیارا آدمی ہے جذباتی ہے سچا ہے اس لیے غصہ کرتا ہے یعنی جو دل میں ہوتا ہے

وہ زبان پر لاتا ہے اور اصلاح ہو جائے تو اس کا غصہ کچھ کنشروں ہو جائے اور اس کا غصہ خیر کی طرف مڑ جائے تو کس قدر مفید انسان بن سکتا ہے۔

ثبت سوچ کا فائدہ اور منفی کا نقصان

☆ ثابت سوچ انسان کو انسان کا ہمدرد بناتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔

☆ منفی سوچ سے انسان دوسروں سے دور ہو جاتا ہے۔

☆ ثابت سوچ انسان کے اندر شکر کا مادہ پیدا کرتی ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ الحمد للہ میں بہت خوش ہوں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔

☆ منفی سوچ بدگمانی پیدا کرتی ہے، اللہ پر بدگمانی (العیاذ باللہ) لوگوں پر بدگمانی۔

☆ میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا تو چلتے چلتے ایک آدمی مجھے ملا وہ مجھے کہنے لگا کہ فلاں آدمی بہت برآدمی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن جا رہا تھا تو اس نے میرے سامنے تھوکا تھا۔ یہ اس نے میرے لیے تھوکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بلا وجہ بدگمانی کی ہے۔ (حاضرین مجلس سے حضرت نے فرمایا کہ) آپ حضرات میں سے کسی ساختی نے بدگمانی سے متعلق پوچھا ہے، پر پچھی میری جیب میں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے۔

لے ہر بات یا واقعہ کو ثابت طور سے دیکھنے کی عادت کا ارتقاء کریں۔ چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دے کیوں نہ ہو منفی اور فضول انداز فکر دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ اسے بے چین مشتعل اور زہریلا بنا دیتا ہے، اپنے ذہنی پہلو اور نکتہ نظر کو دوباری منظم کر کے ہر ایک منفی حالت کو ثابت صورت میں تبدیل کریں۔ یہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لئے ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، یا غصے میں غلط بات کرتا ہے، اس وقت دل میں صرف یہ خیال کریں، کہ وہ شخص ابھی پوری طرح سے سمجھدار نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی وہنی کیفیت ابھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ الیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس شخص کے لئے کسی طرح کے برے خیالات اپنے دل میں نہ لائیں۔ یہ ہوا ثابت پہلو اور رویہ۔ (تعمیر شخصیت کے رہنماء اصول)

بدگمانی کیا ہوتی ہے

بدگمانی یہ ہے کہ بغیر کسی مضبوط دلیل کے۔ دل میں کسی بری بات کا الزام لگایا جائے کہ فلاں ایسا ہوگا۔ ان شاء اللہ بدگمانی کا علاج بھی آگے جا کر بتا دوں گا بہر حال۔ مقنی سوچ بدگمانی پر ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی جیسے کہ (کوئی یہ سوچے کہ) اللہ نے اسے دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ (العیاذ باللہ)

شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں (پھر اس کہنئے کی سزا شیطان کو کیا ملی واقعہ محتاج بیان نہیں ہے)

بطور مثال ایک واقعہ

آپ ہمیشہ ثابت سوچ رکھیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی جنگل میں تھا، وہاں اس نے ایک لوہڑی کو دیکھا جو بیچاری معدود رہی۔ وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ (تو کہیں آجا بھی نہیں سکتی تو پھر یہ) کیا کھاتی ہوگی، تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک چیتا آیا۔ اور جنگلی گائے کی ٹانگ لا کر اس معدود لوہڑی کے سامنے رکھ گیا اس آدمی نے یہ منتظر دیکھ کر سوچا کہ میں بلا وجہ مشقت اٹھاتا ہوں کہ کما کر کھاتا ہوں، اس لیے مجھے کہیں آرام سے بیٹھ کر کھانا چاہئے کیوں کہ جو اللہ اسے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے (چنانچہ یہ سوچ کروہ کسی غار میں آ کر بیٹھ گیا) وہ غار میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ یہیں یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، انہوں نے ان کو وہ لوہڑی والا واقعہ سنایا (ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ بس بغیر محنت و مشقت کے آرام سے بیٹھ کر کھاؤں) اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ یہاں کب سے بیٹھے ہواں نے کہا تین دن ہو گئے ہیں (ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان تین دنوں میں میرے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز یہاں نہیں آئی۔ تب انہوں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ) تم نے غلط سوچا ہے کیوں کہ تم نے معدود

لومڑی سے سبق سیکھ لیا ہے تم نے چیتے سے سبق کیوں نہیں سیکھا کہ وہ خود بھی کھاتا ہے اور اوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو بلا وجہ معدود بنالیا ہے حالانکہ تم تو ٹھیک ہو (کما کر کھا سکتے ہو تو پھر کیوں یہاں آئے بیٹھے ہو) مطلب (کہنے کا) یہ ہے کہ سوچوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ منقی سوچ بڑی نقصان دہ اور ثابت سوچ دنیا و آخرت کے لحاظ سے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔

خانہ بدوسوں کے پرسکون رہنے کا راز

کتاب ”الایمان والجیوه“ کے مصنف نے اپنی کتاب میں ایک انگریز کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ انگریز کہتا ہے کہ میرا بہترین وقت بدوسوں (خانہ بدوسوں) کے ساتھ گزر رہے، کیوں بدوسوں وقت مطمئن اور خوش رہنے والے لوگ تھے۔ یہ ثابت سوچ کا فائدہ ہے مثلاً کسی ثابت سوچ والے کے پاس پانچ روپیہ ہوں تو وہ یوں اظہار کرے گا ”الحمد للہ میرے پاس پانچ روپے ہیں اور اگر کسی منقی سوچ والے کے پاس پانچ روپے ہوں تو وہ یوں اظہار کرے گا：“میرے پاس تو بس پانچ ہی روپے ہیں اور ہے ہی کیا میرے پاس۔“ ایک ہی بات ہے لیکن ان دونوں کے انداز سوچ میں فرق دیکھیں دونوں کے سوچوں میں کتنا فرق ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک آدمی نے خط لکھا کہ میں بڑا انگال ہو چکا ہوں، ”میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“ میں نے انہیں جواب میں لکھا کہ بھی یہی جملہ (کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے) حضرت ابو بکر صدیق رض نے بھی فرمایا تھا (جس کے الفاظ یہ ہیں: ”اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔“) یہ اس موقع پر فرمایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے اپنے گھر کا سارا کام سامان لا کر افکان اول من جاءَ ابُوبَكْر الصَّدِيقَ رض بِمَا لَهُ كَلَهُ أَرْبَعَةُ الْأَفْ درهم فقال رض هل أَبْقَيْتَ لِاهْلِكَ شَيْءًا قَالَ أَبْقَيْتُ لِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ.

(ترجمہ) امداد لانے والوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رض تھے جنہوں نے پورا مال لایا جو چار ہزار درہم تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا کہ گھروں کے لئے کچھ چھوڑ ا تو فرمایا کہ ان کے لئے اللہ اور ان کا رسول چھوڑا ہے۔ شرح علامہ زرقانی ج ۲۳ ص ۶۲

آنحضرت ﷺ کے قدموں میں رکھ دیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔“ (مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے مزید کسی اور چیز کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے) یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا اور مقصود یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا نام گھر میں ہے تو سب کچھ ہے، جب کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ گھر میں ہے تو کچھ بھی نہیں (یعنی یہ کہا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بس صرف اللہ ہی کا نام ہے، حالانکہ جب اللہ ہے تو پھر کسی چیز کی تو ضرورت ہی نہیں) تو ان دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ثابت سوچ کے ساتھ کہتا ہے دوسرا منفی سوچ کے ساتھ۔

بہر حال انگریز کا واقعہ چل رہا تھا کہ اس نے بداؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے مطمئن لوگ تھے (یہ حقیقت ہے کیوں کہ انسان جب ثابت سوچ اپناتا ہے تو وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، جبکہ منفی سوچ والا ہر وقت غلکین رہتا ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچ تمارہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ بس اسی سوچ سے ہی پریشان رہتا ہے) (اس دوران حضرت نے فرمایا کہ مجھے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے پہلے وہ سنادوں و گرنہ بھول جاؤں گا) شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے پاس چیلپیں نہیں تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اے اللہ چیلپیں تو دے دی ہوتیں (تمیں کوئی چیز مانگنی ہو اور تمیں اس کی ضرورت ہو تو ضرور اللہ سے مانگیں لیکن انداز شکایت والا نہ ہو بلکہ درخواست والا انداز ہو) پھر میں چلتے چلتے جامع مسجد کے دروازے پر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے میں نے فوراً کہا الحمد للہ! اگر پاؤں میں چیلپیں نہیں ہے تو کیا ہوا پاؤں تو ہیں (اور اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں) انسان اگر اپنے لیے خوشی کے موقع ڈھونڈے تو ہر جگہ خوشی ہی خوشی ہے لیکن اگر تکلیف کے موقع ڈھونڈے تو پھر ہر جگہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ (بہر حال وہ انگریز کا قصہ چل رہا تھا) وہ انگریز لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ان بداؤں پر کوئی آفت آئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی سارے بکریاں

مال مویشی ختم ہو گئے تھوڑے جانوروں کے سوا جو کہ نجع گئے تھے باقی سب جانور مر گئے۔ بس تھوڑے سے زندہ بچے، تو ان کے سردار نے ان کو جمع کر کے ان سے کہا:

یہ مویشی ہمیں اللہ نے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سے واپس لے لیے ہیں۔ اس میں اللہ کا ضرور کوئی راز ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں خیر ہے، اب یہ جو باقی بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت دے دیں، البتہ ہم سب یہاں سے کوچ کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں (یہ دیکھیں یہ ثابت سوچ ہے) وہ انگریز لکھتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ یہ لوگ تکلیف میں بھی خوش ہیں۔ بہر حال ہمیشہ کوشش کریں کہ ثابت سوچ اپنا کمیں بدگمانی نہ کریں، بدگمانی تمہارے اندر برائیوں کا جنگل پیدا کر دے گا۔ اور اگر تمہارے اندر ثابت سوچ ہوتی تو ہر جگہ سے تمہیں خوبیاں ہی ملیں گی۔

دسویں مجلس

یہود و نصاریٰ کی ایک حالت کا بیان

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

وَقَالُوا إِنَّمَا يَدْعُ الْجَنَّةَ إِلَامَنْ كَانَ هُؤُدًا وَنَصَارَى (البقرہ: ۱۱)

"اور یہود و نصاریٰ (یوس) کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔" (بیان القرآن)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بنی اسرائیل (یہود و نصاریٰ) کی حالت بیان کی ہے، (آج کل) ہماری بھی بالکل یہی حالت ہو چکی ہے، وہی الفاظ وہی باقی تھیں جو وہ لوگ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اہل کتاب کا نظریہ تھا کہ جنت یہود و نصاریٰ (ہی) جائیں گے (گویا کہ) ان لوگوں نے جنت کا تھیکہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ (ان کی اس حالت سے متعلق) فرماتے ہیں۔

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ (البقرہ: ۱۱)

"یہ (خانی) دل بہلانے کی باقی تھیں ہیں۔" (بیان القرآن)

لفظ امانی کا ترجمہ اردو میں "ڈھکو سلہ" اور "جھوٹی آرزو" ہے۔ (آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مناسب کر کے فرماتے ہیں):

فُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ (البقرہ: ۱۱)

"آپ کہیے کہ (اچھا) دلیل لا اگر تم سچے ہو۔" (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرماتے ہیں "دلیل لا وجنت میں جانے کی۔ ہم (لوگ) بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے۔ یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ الْيَهُودُ

عَلَى شَيْءٍ (آل بقرہ: ۱۱۳)

”اور یہود کہنے لگے کہ نصاری (کامدہب) کسی بنیاد پر (قام) نہیں اور (اسی طرح) نصاری کہنے لگے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں۔“ (بیان القرآن)

یہود و نصاری آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے قریش ان دونوں کو غلط کہا کرتے تھے (یعنی قریش نے یہود و نصاری سے کہا کہ تم دونوں غلط ہو صرف ہم صحیح ہیں) ہم بھی یہی کہتے ہیں (کہ صرف ہم اور ہماری جماعت ہی جنت میں داخل ہو گی) اللہ تعالیٰ (اہل کتاب کے اور قریش کے اور آج کل کے ہمارے اس غلط خیال کی تردید میں) فرماتے ہیں:

لَيْسَ بِأَمَانَيْكُمْ وَلَا أَمَانَيْ أَهْلِ الْكِتَابِ (النساء: ۱۲۳)

”نہ تمہاری تمباوں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمباوں سے۔“ (بیان القرآن) یعنی جھوٹی آرزوئیں کام نہ آئیں گی، بلکہ (کام کی چیز تو عمل ہے اچھے اور بے عمل کی جزا اور سزا مل کر رہے گی)

مَنْ يَعْمَلْ سُوءً إِلْيَجْزِيه (النساء: ۱۲۳)

”جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا۔“ (بیان القرآن) ہم کہتے ہیں کہ ہم امت مرحومہ مغفورہ ہیں، حالانکہ امریکی ایجنت ہم ہیں۔ کفر کا ساتھ ہم دیتے ہیں (جیسے کہ ہم نیٹو کے اتحادی بنے ہوئے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشنے بخشانے ہوئے ہیں۔ (یہی حالت تو اہل کتاب کی بھی بیان کی گئی ہے کہ گناہوں کے باوجود وہ اپنی مغفرت کے دھوکے کرتے رہتے تھے) اللہ تعالیٰ (ان کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فَخَلَفَ مِنْهُمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنِي وَيَقُولُونَ

سَيُغْفَرُ لَنَا (الاعراف: ۱۶۹)

”پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب (تورات) کو ان سے حاصل کیا اس دنیا نے دنی (رذیل) کامال و متعال لے لیتے ہیں اور (اس گناہ کو حقیر سمجھ کر) کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی۔“ (بیان القرآن)

یہ اہل کتاب تھے، آج ہماری بھی یہی حالت ہے۔ دین اگرچہ آسان ہے، لیکن ہم نے جو دین بنایا ہے وہ تو دین ہے ہی نہیں۔ چند چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے اور پھر اس کو پورے دین کا نام دے کر ادھورے دین پر مطمئن رہتے ہیں۔

چھ سو شہیدوں کے ثواب والے اشتہار کا قصہ

میں نے ایک اشتہار دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ پانی پینے کے ۶ آداب ہیں، جوان آداب کے مطابق پانی پئے گا تو اسے چھ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ حدیث تو کہیں دیکھی ہی نہیں کہ پانی پینے سے چھ سو شہیدوں کا ثواب ہے۔ اشتہار بھی کسی چھوٹے ادارے کا نہیں ایک بڑے ادارے کا اشتہار تھا اور اشتہار مرتب کرنے والا بھی مضبوط آدمی تھا۔
(اپنے دعویٰ کی دلیل میں) حدیث یہ پیش کی تھی:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنْنَتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةٍ شَهِيدٍ ۖ

”جس نے میری امت میں بگاڑ آجائے کے وقت میرے طریقے کو لازم پکڑا اپس اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔“

یہ حدیث لکھی تھی اور اشتہار میں ترجمہ بھی غلط کیا تھا:

”کہ جس شخص نے میری ایک سنت پر ایسے وقت میں عمل کیا کہ جب امت میں فساد آیا ہوا ہو تو اسے چھ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔“ (یہ ترجمہ درست نہیں ہے اور اس ترجمے میں جو غلطی ہے اسے علماء آسانی سے جان سکتے ہیں اس لیے) میں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ عموم

بیچارے تو نہیں جانتے، آپ تو ٹھیک بتائیں لوگوں کو۔ اشتہار میں لکھا تھا کہ چونکہ ایک سنت پر سو شہیدوں کا ثواب ہے اور پانی میں چھ سنتیں ہیں، اس لیے چھ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ ترجمہ کہاں سے لایا ہے۔ میں نے سوچا کہ دین تو بڑا آسان ہوا پھر آدمی کچھ نہ کرے صرف پانی پئے مزے ہیں اس کے (اس طرح پھر) کھانے میں تقریباً تیس آداب ہیں تو تین ہزار شہیدوں کا ثواب وہاں کھانے پر بھی) ملے گا۔ اسی طرح تقاضے میں بھی تقریباً تیس آداب ہیں تو یہ کل چھ ہزار شہیدوں کا ثواب ہو جائے گا۔ غرض ایک دن میں ہی ہزاروں شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ انسان اور کچھ نہ کرے نہ تلاوت کرے نہ ذکر کرے پھر بھی اس کو ہزاروں شہیدوں کا ثواب مل جائے گا پھر یہ بیچارے مجاہدین کیوں پہاڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ۱ یہ سب ہمارے جھوٹے خیالات اور آرزوں میں ہیں۔ حدیث مذکورہ کا صحیح مطلب کیا ہے علماء متوجہ رہیں۔

احادیث شریفہ میں وارد لفظ "سنت"

متعلق ایک اہم اصول

آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب لفظ سنت کو نبی کریم ﷺ اپنی ذات کی طرف منسوب کریں (یعنی یا کسی حکومت کی طرف اضافت کے ساتھ لفظ سنت مستعمل ہو جیسے "ستنق") تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا طرز زندگی (نہ کہ صرف ایک سنت، جیسے کہ ایک حدیث میں وارد ہے)

عَلَيْكُمْ بِسْتَيْنُ وَسُنْنَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ۝

"تم پر میری (سنت یعنی) طرز زندگی (جس پر میں چلا ہوں) اور خلفاء راشدین کی طرز

۱. لَعَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کے راستے میں (یعنی جہاد میں) ایک صبح یا شام دنیا و مانیحہ سے بہتر ہے۔

۲. اخر جهہ شرح السنۃ ج ۲ ص ۰ ۱۵ کتاب التوافل باب قیام شہر رمضان وفضله.

زندگی کی اتباع لازم ہے۔“

آپ ﷺ کی اس حدیث مبارکہ میں لفظ ”سنۃ“ سے مراد پورا طرز زندگی ہے نہ کہ کوئی ایک سنۃ۔ اسی طرح خلفاء راشدین بھی ایک ہی سنۃ پر عمل پیرانہ تھے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے تبلیغ کی ایسے ہی آپ ﷺ نے جہاد فرمایا: تبلیغ فرمائی، لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کا تزکیہ فرمایا، (آپ ﷺ کی اتباع میں) صحابہ کرام ﷺ نے بھی یہی سب کچھ کیا۔

پھر سنۃ سے مراد طریقہ ہے۔ لفظ سنۃ کا ترجمہ ادب سے کرنا غلط ہے کیونکہ سنۃ سے مراد ادب نہیں بلکہ طریقہ ہے جیسے

النِّكَاحُ مِنْ سُنْتَیٍ!

”نکاح میری سنۃ میں سے ہے (یعنی میرا طریقہ ہے)۔“

اسی طرح نماز بھی آپ ﷺ کا طریقہ ہے اب نمازوں کا نکاح میں فرائض، واجبات، شرائط وارکان ہیں سنۃ ہیں، اسی طرح جہاد بھی آپ ﷺ کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب جہاد میں کتنے احکامات ہیں جیسے مال غنیمت کے احکامات وغیرہ تبلیغ نبی کریم ﷺ کی سنۃ ہے، لوگوں کا تزکیہ آپ ﷺ کی سنۃ ہے، روزہ بھی آپ ﷺ کی سنۃ ہے یعنی طریقہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مکمل نکاح (تمام فرائض وارکان کے ساتھ) ایک سنۃ ہے، جہاد (اپنے تمام ذیلی تفصیلات کے ساتھ) ایک سنۃ ہے۔ تبلیغ (اپنے تمام آداب و تقاضوں کے ساتھ) ایک سنۃ ہے:

النِّكَاحُ مِنْ سُنْتَیٍ

”نکاح میری طرز زندگی میں سے ہے۔“

مِنْ تَعْيِضٍ کے لیے ہے (علماء کرام جانتے ہیں اس کا مطلب) کہ نکاح میری طرز زندگی میں سے ہے، پورا طرز زندگی نہیں ہے اس لیے من کا مطلب بھی سمجھا کریں لفظ سنۃ کا استعمال احادیث شریفہ میں بغیر اضافت کے بھی ہوا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے:

مَنْ أَخْيَى مُسْتَعْدِي مِنْ سُنْنَتِي أَمْ يَسْتَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْوَرِ مَنْ عَمِلَ
بِهَا مِنْ غَيْرِ آنِ يَنْفُضُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا

”جس نے میرے طریقہ زندگی میں سے کوئی ایک ایسی سنت زندہ کی جسے میرے پردہ فرماجانے کے بعد متروک العمل کر دیا گیا تھا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے زندہ کرنے والے کو بھی ان جیسا ثواب ملے گا بغیر ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی کیے۔“ (مشکوٰۃ)

(مطلوب اس حدیث کا یہ ہے کہ) جس نے میرے طریقہ زندگی میں سے ایک سنت کو زندہ کیا مثلاً لوگوں نے تبلیغ چھوڑی تھی اور کسی نے لوگوں کو تبلیغ پر لگا دیا، لوگوں نے جہاد، تزکیہ یا نکاح چھوڑ دیا تھا اور اس نے اس کو زندہ کیا (تو اس کے لیے یہ مذکورہ فضیلت ہے ان سب میں سے ہر ایک ایک مستقل سنت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہوش سے کام لیں، دھوکہ فریب نہ دیں۔ اس سے تم گناہ کار ہو جاؤ گے) جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو زندہ کیا تو اب قیامت تک (جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور جتنے لوگوں کی زندگیاں دین کے مطابق ہوں گی تو ان تمام اعمال کا) انہیں بھی اجر ملے گا۔ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کر دینے کا ثواب جان لینے کے بعد اب آپ یہ بات یاد رکھیں (کہ ایک حدیث میں آتا ہے)

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنْنَتِي عِنْدَ فَسَادٍ أَمْتَى فَلَهُ أَجْرٌ مَأْتِيَ شَهِيدٌ

”جس نے امت میں فساد کے وقت میرے طریقہ زندگی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔“

یہاں اس حدیث میں سنت سے مراد طریقہ زندگی ہے ”امت میں فساد“ آگیا ہو کا مطلب یہ ہے فساد سے کہتے ہیں کوئی چیز خراب ہو جائے، جیسے کہتے ہیں کہ دودھ میں فساد آگیا ہے (یعنی پھٹ گیا ہے) مطلب یہ ہے کہ دودھ موجود تو ہے لیکن خراب ہو گیا ہے۔ ایسا ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو ہو گا لیکن دین میں خرابی پیدا ہو گئی ہو گی یعنی لوگ گڑبرد کرنے لگے ہوں میں پسند دین کو

اپناتے ہوں گے۔ تو ایسے گڑبڑ کے وقت میں آدمی نبی کریم ﷺ کی پوری طرز زندگی پر عمل کرے تو یہ مشکل کام ہے اس لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اب پوری ”طرز زندگی“ میں اصلاح، جہاد، تعلیم، تبلیغ، سب شامل ہیں۔ تو ایسے وقت میں کہ جب لوگ بعض دین پر عمل کرتے ہوں بعض کو چھوڑ رہے ہوں ایسے وقت میں وہ نبی کریم ﷺ کی پوری طرز زندگی پر عمل کرنے والا ہو۔ آپ (احادیث شریفہ پر) غور کریں کہ جہاں ایک سنت کا ذکر مقصود ہو وہاں آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَخْيَى مُسْنَةً مِنْ مُسْنَتِي

”جو شخص ایک سنت زندہ کرے میری سنت یعنی طرز زندگی میں سے۔“

اور حدیث : ”مَنْ تَمَسَّكَ بِمُسْنَتِي“ کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری طرز زندگی پر چلے، اس کا اجر یہ ہے کہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو (اس ساری تفصیل کو عرض کر دینے کا مقصود یہ ہے کہ) ”مُسْنَتِي“ اور ”مِنْ مُسْنَتِي“ میں بھی فرق ہے کہ ”مُسْنَتِي“ سے مراد طرز زندگی ہے۔ (بہر حال میں اس اشتہار کی بات بتارہا تھا، افسوس یہ ہے کہ) اس اشتہار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر جہاد میں اخلاص نہ ہوا تو آپ جہنم چلے جائیں گے، لیکن آپ پانی (سنت کے مطابق) اخلاص سے پہنچیں تو آپ جنت جائیں گے۔ اتنی جرأت!!!

میں تو حیران ہو گیا یہ کتنی بڑی جرأت ہے۔ حالانکہ جہاد (اور پانی پینے کا کیا تناسب اور کیا جوڑ؟) کہاں پانی پینا اور کہاں سر کی قربانی دینا (یقیناً سر کی قربانی درجے میں بہت بڑھ کر ہے) بہر حال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹے خیالات میں زندگی نہ گزارو۔ ہم نے ہمیشہ جھوٹے خیالات میں زندگی گزاری ہے۔ کہیں چلے جاؤ تو وہاں کہتے ہیں کہ ایک دن عید میلاد النبی کرو، تو جنت تمہاری ہے۔ وہاں بعض لوگ روئے رہتے ہیں، عاشق ہیں (نبی کے) نہ داڑھی ہے اور کچھ بیکھر کے چرس پیتے رہتے ہیں یہ عشق کا مجھ ہے۔ (ہم جھوٹے خیالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں مثلاً ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ) یہ امت مرحومہ ہے ٹھیک ہے، امت تو امت مرحومہ ہے لیکن آپ اپنے گریبان میں دیکھیں (کہ آپ بھی بذات خود مرحوم یعنی یوجہ اعمال کے قابل رحم

ہیں یا نہیں؟) کوئی کہتا ہے کہ اسلامی انقلاب کیوں نہیں آتا۔ (سوال ان ایسے کہنے والوں میں سے ہر ایک سے یہ ہے کہ) کیا تمہارے اندر اسلام ہے؟ تمہارے اندر ہو گا تو اسلامی انقلاب بھی آئے گا (اس لیے کہ معاشرہ تو افراد سے وجود میں آتا ہے) تمہارے اندر ہی اسلام نہ ہو گا تو اسلامی انقلاب کیسے آئے گا۔ گدھوں کے مالک سے گائے کے دودھ کی توقعات نہ رکھیں (یعنی مغربی جمہوریت سے اسلامی انقلاب کی توقع ایسی ہی تو ہے جیسے گدھوں سے دودھ کی توقع) اسلامی انقلاب اسلام پر عمل پیرا ہونے سے ہی آئے گا نہ کہ دیگر انقلاب دنیوی کی طرح کہ وہ تو اسباب سے بھی آجایا کرتے ہیں۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جھوٹے خیالات پر نہ چلیں، نہ ہی اور لوگوں کو چلا کیں، ہمیشہ چاہی پر چلیں، چاہی ایسی تلوار ہے جس کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے اصلی کافر اعلیٰ مسلمان سے (بعض چیزوں میں) اچھا ہے، خفانہ ہونا۔ اصلی کافر غالب رہے گا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ (العیاذ بالله) جنت جائے گا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسے کچھا چھایاں بوجہ اصل ہونے کے ملیں گی۔ (اس بات کو مندرجہ ذیل مثال سے سمجھیں) ایک اصلی چوہا ہے اور ایک گتے کا شیر ہے۔ (دونوں میں مقابلہ ہوتا تو ایک چوہا کیا وہ تو چوہا ہے کی کئی نسلوں تک کا صفائیا کر دیتا) اب ہم گتے کے (نقل) مسلمان ہیں اور کافر اصلی چوہا ہے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے اس لیے اصلی کافر غالب رہے گا۔

پہلے آپ خود کو سچا مسلمان بنائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ غالب آتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنَّكُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنُونَ ۝ (آل عمران: ۱۳۹)

”اور تم ہمت ہارو اور نجّ مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔“

(بیان القرآن)

(اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے) کہ اگر تم یقیناً مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔

گیارہویں مجلس
 لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں
 سے اپنے آپ کو بچائیں
 انسان اگر لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں
 سے بچے تو بہت کچھ پاسکتا ہے
 (خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ هُمْ خَشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
 اللَّغُومِ مُعْرِضُونَ ۝ (المؤمنون: ۱۳)

”با تحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو اپنی تماز میں خشوع کرنے والے
 ہیں اور جو لغو باتوں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی) برکنا رہنے والے ہیں۔“ (بیان القرآن)
 آپ اگر لا یعنی کاموں اور لا یعنی باتوں سے بچیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہمارا بہت
 سارا وقت لا یعنی کاموں میں گزر جاتا ہے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ دین کا فائدہ
 ہوتا ہے، نہ دنیا کا۔ ”لا یعنی بات“، یعنی (وہ فضول بات جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو) نبی کریم ﷺ
 نے مزاح فرمایا ہے، یعنی بات جس میں غمکینی ہو۔ جس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہو اور ساتھیوں کی
 ول جوئی ہو۔ تو یہ فائدہ ہی ہوا جبکہ لا یعنی بات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مومن کی شان
 ہی یہی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے بچتا ہے (مذکورہ بالا آیات میں) اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے کہ ”فلاح پا گئے مومن لوگ“، ”فلاح“ ہر اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ اگر ایک آدمی دنیا میں تو بادشاہ بنا مگر آخرت میں وہ جہنمی بناتو یہ شخص ناکام ہوا۔ کامیاب تودہ ہے جس کی کامیابی مسلسل جاری رہے۔ اور ترقی پر ترقی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ (مومن کی صفات کا بیان فرماتے ہوئے) فرماتے ہیں (کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔“

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ هُمْ خَشِعُونَ (المؤمنون: ۲)

”جو اپنی نماز میں خشوع کرتے والے ہیں۔“ (بیان القرآن)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے (مومن) جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ عاجزی کرتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العالمین کی طرف بھکھے ہوئے ہوتے ہیں (خشوع کی مثال یوں سمجھیں کہ) آپ کے سامنے ایک شخص آیا (جو کہ بادشاہ ہیں مگر) آپ نے اسے نہیں پہچانا تو آپ ان کے سامنے ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوں گے بے تکلف بات کریں گے لیکن جیسے ہی آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ بادشاہ وقت ہیں تو آپ ایک دم سکڑ جائیں گے جس اندر وہی عظمت اور خوف نے تمہیں جکڑ لیا تمہیں ڈھیلا کر دیا اس اندر وہی چیز کا نام خشوع ہے۔ تو ایسا ہی اگر آدمی کے دل میں اپنے رب کا خوف وہیت، اس کی عظمت ہو گی اور اس کی قوت و قدرت جیسی صفات کا استحضار ہو گا تو آدمی کا دل رب کی طرف جھک جائے گا۔ دل کے اس جھک جانے کا نام خوف ہے جس کا اثر ظاہری اعضاء پر نمایاں

حاشیۃ گز شتر صفحہ ۱ عن ابی هریرۃ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَمْتَلِئْ جَوْفُ أَحَدٍ كُمْ قَيْحاً حَسِيرَةً
مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شَعْرًا قَالَ أَبُو عَلَیٰ بَلَغَتِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَجْهَهُ أَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبَهُ حَتَّیٌ يَشْغُلَهُ
عَنِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ الْعَالِيُّ فَلَيْسَ بِخَوْفٍ هَذَا عِنْدَنَا مُمْتَلِيًّا مِنَ الشِّعْرِ
وَأَنْ مِنَ الْبَيَانِ لَسْحَراً قَالَ كَانَ الْمَعْنَى يَبْلُغُ مِنْ بَيَانِهِ أَنْ يَمْلأَ الْأَنْسَانَ فِي صَدَقٍ فِيهِ حَتَّیٌ
يُصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قُوْلِهِ ثُمَّ يَذْمِهِ فِي صَدَقٍ فِيهِ حَتَّیٌ يُصْرِفَ الْقُلُوبَ إِلَى قُوْلِهِ الْأَخْرَفَ كَانَهُ
سَحْرُ السَّامِعِينَ بِذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ج ۲ کِتَابُ الْأَدْبَرِ بَابُ مَا جَأَفَى الشِّعْرَ.

ہو جائے تو صرف نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ خشوع والی نماز مقصود ہے۔ امت سے جو چیز ضائع ہوگی سب سے پہلے وہ خشوع ہوگی۔ اگر ہماری نمازیں خشوع والی نمازیں بن جائیں تو اس سے انشاء اللہ ہماری پوری زندگی اچھی ہو جائے گا۔

نماز میں آنے والے وساوس و خیالات

کا آسان اور مختصر ترین علاج

نماز میں اگر آپ کو خیالات (وساؤس) آئیں تو اس کی فکر نہ کریں (یعنی اس سے پریشان نہ ہوں) البتہ (نماز میں خیالات) خود سے نہ لائیں (مثلاً) خود (اپنے اختیار سے) نماز میں حساب و کتاب نہ کریں، لیکن اگر خیالات (وساؤس از خود) آجائیں تو یہ سوچیں کہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خیالات پھر ادھر ادھر بھکیں گے آپ دوبارہ یہی سوچیں کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے ٹنپیر کر رہا ہے کہ کیا مجھ سے کوئی اور اچھا ہے کہ آپ اُس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس بات کی مشق کریں۔

یہر حال! میرا مقصود یہ ہے کہ آپ لوگ لا یعنی باتوں اور کاموں سے بچیں! (چونکہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ گرام قدر بیان ماہ رمضان المبارک کی ایک ابتدائی نشست میں ہوا تھا اس لیے موقع محل کی مناسبت سے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا:)

اگر ماہ رمضان میں ہم لا یعنی باتوں اور کاموں سے بچیں گے تو امید ہے کہ ہم رمضان کو (زیادہ سے زیادہ برکات و انوارات کے ساتھ) پالیں گے۔ باقی لا یعنی چیزوں سے تو خیر عمر بھر بچنا ہے، البتہ رمضان المبارک میں اس لیے (زیادہ اہتمام) سے بچیں تاکہ ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہو کہ ہم لا یعنی چیزوں سے پوری زندگی نج سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغٰو مُغَرِّضُونَ (المتومنون: ۳)

”اور جو لغو با توں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی) برکنار رہنے والے ہیں۔“ (بیان القرآن)
انسان کا تعلق جب اپنے رب کے ساتھ مصبوط ہونے لگتا ہے تو پھر اپنے رب کی طرف بڑھنے میں وہ جس چیز کو بھی رکاوٹ خیال کرے گا تو اس چیز سے وہ بچے گا۔ کیوں کہ وہ چیز اسے اپنے رب کی طرف بڑھنے سے روکے گی۔ لایعنی بات سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ ایمان دار لوگ وہی ہیں جو فضول با توں اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں لیعنی ان کی طرف دیکھنا بھی گوار نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ لایعنی سے بچتے ہیں تو برے کاموں سے تو وہ لوگ بطریق اولیٰ بچیں گے۔ جب وہ اس بات سے بھی دور رہتے ہیں جس میں فائدہ نہ ہو تو برے کاموں سے تو وہ ہر حال میں بچیں گے۔

خلاف واقعہ مبالغہ آرائی سے بھی بچنا چاہئے

(خلاف واقعہ مبالغہ آرائیاں بھی ناپسندیدہ ہیں اس لیے اس سے بھی بچنا چاہئے) ایک شیخ کے پاس دو آدمی مرید ہونے کے لیے آئے، وہ دونوں وہاں وضو کر رہے تھے کہ شیخ کا وہیں ان کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ دونوں آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری مسجد میں جو تالاب ہے وہ اس تالاب سے بہت بڑا ہے۔ شیخ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تمہاری مسجد کا تالاب اس تالاب سے کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بڑا تو ہے ہمارا تالاب لیکن ہم نے ناپانہیں ہے۔ (چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بہت بڑا ہے اور بغیر تحقیق و علم کے یونہی ایک چیز سے متعلق رائے قائم کر لینا لایعنی ہی ہے اور بالکل فضول بات ہے جو کہ کسی طرح بھی نہیں کرنی چاہئے اس لیے شیخ نے بطور تنتیہ کے ان سے فرمایا) چلو جاؤ اس تالاب کو ناپ کراؤ (پھر موازنہ کیا گیا تو وہ مسجد کا تالاب دونوں چلے گئے اور جا کر تالاب کی پوری پیمائش کی، پھر جب موازنہ کیا گیا تو وہ مسجد کا تالاب صرف ایک بالشت بڑا تھا (حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا ہے) شیخ نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا

کہ بہت بڑا ہے (اور چونکہ تمہیں صحیح علم تو تھا نہیں اس لیے ایک فضول اور بے حقیقت بات کہی) یہ لایعنی ہے (غرض یہ کہ انہیں اس سزا سے تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ زبان کے معاملے میں احتیاط رکھیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان میں ان باتوں سے اور جسم کے دیگر اعضائیں کاموں سے رُک جائیں جو کہ فضول ہوں، ہم (صرف) وہ کام کریں جو ہمارے لیے مفید ہوں۔ (اب یہ دیکھیں کہ) مفید اگر دنیا کے لیے مفید ہے اور آخرت کو برپا کرنے والی ہے تو اس قسم کے کاموں سے بھی بچتا ہے اس لیے ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں جس میں آخرت کا فائدہ ہو، یادنیا کا ہی فائدہ ہو اگر اس کام میں نیک نیت کرو گے تو وہ ہی دین اور کارثہ بن جائے گا (لیکن اس سے آخرت بھی خراب نہ ہوتی ہو) کوشش کریں کہ اس ماہ میں فضول کام نہ کریں۔

ہر کام سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کام کا کیا فائدہ ہے اور میں اسے کیوں کر رہا ہوں۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا کر لینے سے بڑی حد تک لایعنی سے بچتے میں قوت و مدد ملے گی۔)

بارہویں مجلس
 حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے
 متعلق افراط و تفریط پر منی غلط عقائد
 بعض لوگ انبیاء کرام علیہم السلام
 کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَانِتَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحج: ۳۲)

”جو شخص دین خداوندی کے ان (مذکورہ) یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا خدا تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے (حاصل) ہوتا ہے۔“ (بیان القرآن)

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور دونوں (فریق) خواہ افراط کرنے والے ہوں یا تفریط کرنے والے ہوں انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ نبی کریم ﷺ کو اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو (مرتبے میں) اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ نبی کریم ﷺ کو بشر نہیں مانتے (یہکہ نور مانتے ہیں) حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ کسی مخلوق کو حاضر و ناظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ جس طرح ہر چیز کو ہر آن میں ہر لمحے میں دیکھتا ہے، جانتا ہے اور اس پر گواہ ہے

حالانکہ ایسی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے سوا کائنات میں دوسرا کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المجادلة: ۶)

"اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔" (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ (اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں) کہیں حاضر ہونا، اور کہیں نہ ہونا اس طرح کا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہوتا (جیسے مثلاً) میں اس وقت یہاں ہوں۔ اب میں پشاور جاتا ہوں تو پشاور پہنچ کر میں پشاور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب پشاور میں تو میں حاضر ہوں گا لیکن کیا میں اس وقت یہاں بھی حاضر ہوں گا (ظاہر ہے کہ) ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ بیک وقت ہر چیز پر گواہ اور حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

اگر آپ نے (فرط عقیدت سے مغلوب ہو کر) نبی کریم ﷺ کو (درجے میں) اللہ تک پہنچایا تو یہ آپ نے تعریف نہ کی بلکہ (بہت بڑی گستاخی کی کیوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اب بندے کو اللہ تعالیٰ کے برادر سمجھنا یہ عزت نہیں ذلت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بندہ ہونا ہی ان کے لیے عزت ہے۔ یاد رکھیں! انسان کا بندہ سے بلند مقام عبدیت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اگر آپ انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے درجے سے گردایا ہے۔ کیوں کہ انسان تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے اور تمام فرشتوں نے اسی انسان کو سجدہ کیا ہے۔ اب آپ بتائیں؟ کہ فرشتے اعلیٰ ہیں یا انسان؟ ظاہر ہے کہ انسان اعلیٰ ہوا۔ اب اگر آپ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بجائے انسان کے فرشتے مانتے ہیں تو تب بھی آپ (ان کے درجے میں) تنقیص ہی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح گمراہی میں بنتا ہو جاتے ہیں۔

دوسری قسم کے لوگ ان کے بال مقابل ہیں وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ تو حید کی آڑ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کرتے ہیں (وہ لوگ حضرات انبیاء کرام

علیہم السلام) سے متعلق ایسے نظریات و افکار کے حامل ہوتے ہیں کہ) جس سے نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی توجیہ ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کہ توحید بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (بلکہ انتہائی ضروری ہے) لیکن (توحید کی آڑ میں) یہاں تک بات پہنچانا کہ العیاذ باللہ! نبی کریم ﷺ اپنی قبر مبارک میں بالکل مٹی ہو کر رہ گئے ہیں (تو یہ خلافِ حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قسم کی بے ادبی بھی ہے جس سے اہل ایمان کو بہر صورت پہنالازم ہے) یہ جو باریک قسم کے مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم بلا وجہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو درمیان میں لاتے ہیں جیسے حیات و ممات کا مسئلہ ہے۔ اب یہ علم الکلام کا مسئلہ ہے حضرات علماء کرام (ہی) اس پر بحث کریں گے لیکن ایسی بات جب منبر تک پہنچ گئی (جس سے عام مسلمان الجھاؤ اور تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں) ہر وہ مسئلہ جو عوام میں بیان کرنے کا نہیں ہے جب وہ منبر تک چلا گیا (مرا د بعض علمی اختلافی مسائل ہیں) اس میں ہم نے گڑ بڑ کی اور عوام کو تقسیم کر دیا، اس طرح سے (تقسیم کا نقصان یہ ہوا کہ) بعض لوگوں نے تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو (مرتبے میں) خدا تک پہنچا دیا (کہ علم غیب، حاضر و ناظر جیسے غلط عقائد کی طرف چلے گئے) جبکہ اس کے بر عکس بعض دیگر لوگوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے واقعی اور حقیقی (مرتبے اور) درجے سے بھی کم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو جن صفات سے نوازا ہے (وہ ان کو بھی) بیان نہیں کرتے ہیں، (بیان نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں) کہ یہ چیزیں شرک ہیں۔ حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات و محبوبات خود قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کوڑھ کے مریضوں کو اور مادرزادوں کو ٹھیک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔

۱۰۲
لَ وَأُبُرِيَ الْأَسْكَمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران: ۳۹)

(ترجمہ) اور میں اللہ کے حکم سے مادرزادے ہیں اور مبروس کو اچھا کر دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ (تفیر ماجدی)

اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں یا اختیار دیا تھا کہ جسے چاہو ٹھیک کر دو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جس کے بارے میں تمہیں اللہ حکم دے دیں تو تم انہیں کو ٹھیک کر دو۔ تو وہ زندہ اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ”بِإذنِ اللَّهِ“ (یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ) کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے تھے۔ اس لیے عقیدہ بھی ہمیشہ ٹھیک رکھا کریں بہر حال! حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جائز تعریف ضروری ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مرتبے سے انہیں گھٹانا یہ توجیہ ہے (جس سے بہر صورت پختا لازم ہے) نبی کریم ﷺ نے خود فرمایا ہے کہ میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جس طرح کہ نصاریٰ نے کیا کہ اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ (نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں العیاذ بالله)

اب مطلب یہ ہے کہ اتنی تعریف نہ کرو کہ پیغمبر کو درجے میں خدا تک پہنچا دو (اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی صفت میں شریک کرنا سراسر شرک ہے) اللہ تعالیٰ خالق ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق ہیں۔ اب خالق و مخلوق میں کیا مناسبت (ظاہر ہے کہ مخلوق کسی طرح بھی خالق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی) لیکن (اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھ لیتی چاہئے کہ) مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق

یہ کہنا کہ وہ مٹی ہو گئے ہیں درست نہیں ہے

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد (قبر میں) مٹی ہو جاتے ہیں (تو ان کی یہ بات) غلط ہے۔ ایک آدمی سے میری بحث ہوئی وہ کہہ رہا تھا کہ تجربہ

۱۔ وَعَنْ خَمْرَاضِيِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى إِنَّ مَرْيَمَ فَأَنَّمَا أَنْعَبَهُ فَقُولُواْ أَغْبَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اخرجه مشکوٰۃ المصایب ص ۱۳۲ کتاب الفتن باب المفاحرة والعصبية بحوالہ بخاری و مسلم.

سے ثابت ہے اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی جسم والی (جاندار) چیز مرجاتی ہے تو چند دنوں بعد اسے کیڑے کھا لیتے ہیں اور وہ جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، یقیناً تجربہ ہے مثلاً جیسے مکری مرگی تو تین یا چار دن بعد تقریباً اس میں کیڑے پڑیں گے، پھر گوشت ختم ہو کر صرف ہڈیاں باقی بچیں گی اور پھر وہ ہڈیاں (رفتہ رفتہ) مٹی بن جائیں گی یہ تجربہ ہے، تو ایسا ہی جب انسان مرجاتا ہے تو چند دنوں بعد وہ مٹی بن جاتا ہے، اس لیے یہ تجربہ دلیل ہے (اس بات پر کہ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی انسان ہیں، اس لیے وہ بھی اس تجربے کی بندیاد پر مٹی بن جاتے ہوں گے العیاذ بالله) اس تجربہ کا ایک (اعتنی) جواب یہ ہے کہ (خود) نبی کریم ﷺ نے فرمایا دیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاٰءِ فَنَبَيَّ اللَّهِ حَسَنِي يُرَدِّفُ

”اللہ تعالیٰ نے زمین پر (حضرات) انبیاء کرام (علیہم السلام) کے (مبارک) جسموں

کو کھانا حرام کر دیا ہے۔“

”انبیاء کرام زندہ ہیں (اور) رزق دیے جاتے ہیں۔“

(اب سوال یہ ہے کہ) انبیاء کرام علیہم السلام کیسے زندہ ہیں؟ (تو اس کا جواب یہ ہے کہ)

اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرہ: ۱۵۳)

”لیکن تم (ان) حواس سے (اس حیات کا) اور اک نہیں کر سکتے۔“ (بیان القرآن)

اگر شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام تو پھر بطريق اوٹی زندہ ہیں (اب وہ کیسے زندہ ہیں، تو خود اللہ نے فرمادیا ہے کہ) تم نہیں جانتے۔ (توجہ اللہ جل شانہ خود ایک چیز سے متعلق یہ فرمار ہے ہوں کہ ”تم نہیں جانتے“ کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم جواب میں یوں کہیں) کہ ہاں ہم نہیں جانتے۔ اور پرواں حدیث (إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى الْأَرْضِ الْخ) سے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ضعیف ہی ہے موضوع تو

نہیں ہے، من گھرست بھی نہیں ہے باقی رہا تجربہ (کہ ہر جسم والی چیز مرنے کے بعد خاک ہو جاتی ہے) تو اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی باطنی خبائث کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں میں اعلیٰ ترین اور اکمل ترین انسان ہیں

ایسی بات نہیں ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسان نہیں ہیں۔ نہیں بلکہ وہ انسان ہیں بشر ہیں (لیکن عام انسانوں سے بہت بڑھ کر ہیں) جیسے ایک ہر ن ہے اس کے نافے میں مشک ہے (جو کہ خون سے بنتا ہے) وہ نیس ہزار روپیہ (تقریباً کم و بیش) تولہ ہے، حالانکہ درحقیقت وہ خون ہی ہے۔ ایسا ہی ہر ن میں عام خون بھی ہے اس کی قیمت ایک آنڈہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نافے کا مشک پاک بھی ہے جبکہ ہر ن کا عام خون ناپاک ہے تو دونوں میں فرق ہے۔ (ایسا ہی) انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر عام انسانوں میں بھی فرق ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی (جیسی عظیم الشان امانت) کے لیے چنا تھا۔ (اس لیے ان میں اور عام انسانوں میں فضل و کمال اور مرتبے کے لحاظ سے فرق کا ہوتا بدیہی بات ہے) بہر حال تجربے کی بات کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تجربہ تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ شہید ہونے کے سالہا سال بعد دیکھے گئے ہیں کہ وہ صحیح سالم ہیں (مٹی نہیں بننے ہیں) حضرت عبداللہ بن تامر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیر و کاروں میں سے تھے، نبی کریم ﷺ کے زمانے سے بہت پہلے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی قبر کھل گئی تھی (تو وہاں موجود صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں نے دیکھا کہ) ان کا ہاتھ کن پتی پر رکھا ہوا تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون آنے لگا اور ان کا جسم بالکل سالم تھا۔ (چنانچہ پھر وہ قبر دوبارہ بند کر دی

گئی تھی۔ تو تجربہ تو یہ بھی ہے) حضرت عبد اللہ بن جابرؓ ایک معرکہ میں شہید ہو گئے۔ قبر وہیں میں، پھر شہادت کے چھیالیس سال بعد وہاں ایک نہر آئی (جس سے قبر میں پانی جانے کا اندیشہ تھا) حضرت معاویہؓ کے زمانے میں لوگوں نے وہ قبر وہاں سے ہٹانا چاہی، دیکھا تو ان کے جسم میں کوئی بھی تغیر نہیں آیا تھا۔ ۱۔ تجربہ تو یہ بھی ہے کہ شہادت کے چھیالیس سال بعد تک جسم (اپنی حالت پر) ثابت ہے۔ اسی طرح افغانستان کے جہاد میں بہت ساری قبریں بعد میں (کسی بھی وجہ سے) کھولیں گئی تو شہداء کے جسم صحیح سالم تھے۔

سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ

کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ

(سلطان) نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ دو کتے مجھے قبر سے نکالنا چاہتے ہیں (بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے خواب میں سلطان کو ان دو کتوں کی شکلیں بھی دکھادی تھیں۔ بیدار ہونے کے بعد سلطان نے تیاری کی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے) مدینہ منورہ آ کر سلطان نے سب مدینہ والوں کی دعوت کی (یہ تدبیر تھی ان کتوں کو پکڑنے کی) جب سب لوگ آ گئے (تو سلطان نے خواب میں جو دو بد بخت دیکھے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے) سلطان نے پوچھا کہ کیا مدینہ کے سب لوگ آ چکے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ باقی تو سب لوگ آ چکے ہیں البتہ صرف دو آدمی نہیں آئے ہیں۔ اور وہ دو آدمی بہت نیک ہیں، وہ دونوں کسی کی دعوت میں نہیں جاتے، کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں مشغول رہتے ہیں بس صرف وہ دونوں نہیں آئے ہیں۔ وہ دونوں دراصل وہی دو کتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے قبر شریف سے کچھ فاصلے پر ڈیرہ ڈالا

۱۔ ان میں عمرو بن جحون بھی تھے احمد کے مقام پر ان تمام صحابہ کی لائیں صحیح سالم تھیں۔ شرح الصدوق بر شرح احوال الموتی والقبور بحوالہ شیخی علامہ جلال الدین سیوطی

ہوا تھا اور وہاں سے نقب لگا رہے تھے آپ ﷺ کے روشنے کی طرف۔ (رات کو یہ لوگ نقب لگاتے رہتے اور صبح اسے کسی چیز سے ڈھانپ کر چھپا لیتے) ان بد بختوں کا منصوبہ یہ تھا کہ نعمود باللہ حضور ﷺ کو (قبر مبارک میں سے) نکال کر لے جائیں گے، پھر مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس قبر میں کوئی نہیں ہے چلو شرط کرو۔ (چنانچہ لوگوں کی نشان دہی پر سلطان رحمہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچے) سلطان نے ان کو کپڑا، جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سے ان کو ہٹایا تو سرگنگ دیکھی اور پھر سلطان اس سرگنگ میں اندر چلے گئے (سلطان نے دیکھا کہ) وہ یہودی کتنے نقب لگاتے لگاتے حضرت عمر فاروق ؓ کے پاؤں مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ حجرہ مبارک میں قبروں کی ترتیب بھی ادب پر مبنی ہے۔ اسی طرح (ادب کے پیش نظر) حضور ﷺ کی وفات کے بعد محراب میں جہاں آپ ﷺ سجدہ مبارک فرماتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی کہ کسی کے پاؤں اس جگہ نہ لگے کہ جہاں آپ ﷺ کا سر مبارک لگا ہو۔ یہ ادب ہے اب کوئی اس کو بھی کہہ دے کہ یہ شرک ہے۔ تو وہ یہ جملہ کس پر کرتا ہے۔ اسی طرح منبر پر تشریف فرماؤ ہوتے تھے اس لیے) حضرت ابو بکر صدیق ؓ دوسری سیرھی پر تشریف فرماؤ ہوتے تھے جبکہ حضرت عمر فاروق ؓ پہلی سیرھی پر تشریف فرماؤ ہوتے تھے۔ بہر حال! ان کتوں نے نقب لگاتے ہوئے کھدائی کے دوران درانتی حضرت عمر فاروق ؓ کے پاؤں مبارک کو بھی ماری تھی جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے سے خون آرہا تھا۔ (بہر حال حضرت سلطان نے ان کتوں کو سزا دی اور سرگنگ کو بند کروادیا) عراق میں دو صحابہ مدفون ہیں، عراقی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ دو صحابہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آرہا ہے، ہماری قبروں کی جگہ تبدیل کر دو۔ یہ بادشاہ صدام حسین سے پہلے کا تھا بھی قریب کا ہی واقعہ ہے تقریباً ستر سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس بادشاہ نے تین یا چار مرتبہ یہ خواب دیکھا۔ ہر بار خواب دیکھنے کے بعد علماء سے پوچھتا تھا لیکن علماء نے قبروں کے منتقل کرنے سے منع کیا۔ بالآخر بار بار خواب دیکھنے کے بعد جگہ تبدیل کرنے کا ارادہ

کر لیا۔ چونکہ ان دنوں حج کا زمانہ قریب تھا اس لیے طے یہ ہوا کہ حج سے فراغت پر یہ کام کیا جائے گا۔ اس واقعے کی باقاعدہ تشریف بھی ہو گئی (چنانچہ جب حج کے بعد قبروں کی جگہ بدلتے کا آغاز کیا جا رہا تھا تو اس وقت) انگریز بھی آگئے، انہوں نے کمرے بھی لگائے، پرو جیکٹ بھی لگائے۔ مسلمانوں نے (اس گھوارے کو) بڑے بڑے بانس لگادیے (جن میں مینوں کو دوسرا جگہ لے کر جانا تھا) تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں۔ چنانچہ جب قبریں کھولی گئی اور ان صحابہ کرام کو نکالا گیا تو وہ میتیں بالکل تازہ تھیں۔ (یہ ایمان افروز واقعہ دیکھ کر) بہت سارے انگریز مسلمان ہو گئے (ان دو صحابہ میں سے ایک حضرت حذیفہ بن یمان بھی تھے) حضرت حذیفہ بن یمان کی آنکھوں میں اس وقت بھی وہ چمک باقی تھی جو زندہ انسان کے آنکھوں میں ہوا کرتی ہے اور جو وفات سے چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اخبارات وغیرہ میں بھی آگیا۔ ماہنامہ البلاغ میں میں نے خود بھی پڑھا ہے (ماہنامہ البلاغ دارالعلوم کراچی کا ترجمان رسالہ ہے جو ان دنوں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدد ہم کی سرپرستی میں ہر ماہ شائع ہوتا ہے) دریائے جہلم میں تقریباً دس بارہ سال پہلے طوفان آیا تھا جس سے بہت ساری قبریں اکھڑ گئیں تھیں، جن میں سے بہت سارے مردے سالم نکلے۔

میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ ہم افغانستان میں زمین کھو دیتے تھے تو زمین کھو دتے کھو دتے ہم پر ایک قبر کھلی جو کہ ایک لڑکی کی تھی جس کی لاش بالکل صحیح سالم تھی، کوئی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ البتہ کفن ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کیس کی جانی ہوتی ہے۔ تو یہ سب تجربے ہیں یا نہیں؟ الغرض یہ کہ دونوں طرف تجربے موجود ہیں۔ (اور اس تجربے پر مذکورہ واقعات کے علاوہ بھی سینکڑوں واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں) اب میں قرآن مجید میں سے ایک دلیل بتاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجدِ اقصیٰ بنارہے تھے، تو موت تو وقت پر ہی آئی ہوتی ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجدِ اقصیٰ کی تکمیل سے پہلے ہی موت آگئی۔ وہ کھڑے تھے، تو کھڑے ہی رہ گئے۔ جنات کو بھی پتہ نہ چلا کہ انہیں موت آگئی ہے۔ چنانچہ

جنات آتے تھے دیکھتے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو کھڑے ہونے کی حالت میں پا کر (دو بارہ) کام شروع کر دیتے تھے (حضرت سلیمان علیہ السلام پر جس جگہ موت واقع ہوئی تھی اسی جگہ سے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام جنات کے کام کی نگرانی بھی فرماتے تھے، اس لیے موت کے بعد بھی جنات آپ علیہ السلام کو زندہ رکھتے رہے اور بدستور آپ علیہ السلام کے ذریعے مسجدِ قصیٰ کی تعمیر میں لگے رہے یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی) چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَلَمَّا فَضَّلْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاتَهُ حَفَلَمَا حَرَثَتِ

الجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَدَابِ الْمُهِينِ (سبا ۱۲)

”پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔“ (بیان القرآن) (آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہیں) جب اللہ نے ان پر موت کا فیصلہ کر لیا کسی کو بھی ان کی موت کا پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ ان کی موت کا پتہ دیمک نے دیا (اگر دیمک نہ ہوتا تو کسی کو ان کی موت کا پتہ ہی نہ چلتا) دیمک نے ان کی لاخی کھالی یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر آ لیئے تب پتہ چلا کہ اوہ ہو یہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک جنات مصیبت میں کھنسے رہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ (ذرا آپ اندازہ لگائیں) سلیمان علیہ السلام کی لاخی شاہی لاخی تھی، کیسی ہو گی (ظاہر ہے کہ بڑی شاندار اور بڑی مضبوط ہو گی) اس لاخی کو دیمک نے خراب کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ مردہ انسان کا جسم جلد خراب ہوتا ہے یا لاخی؟ (سیدھی بات ہے کہ) انسان جلد خراب ہوتا ہے نسبت لاخی کے، کیوں کہ مردہ انسان کا جسم مرنے کے بعد ایک دو دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے جبکہ دیمک اور لکڑی کا حال یہ ہوتا ہے کہ عام سے عام لکڑی پر بھی مہینوں مہینوں دیمک لگا رہتا ہے تب کافی عرصے بعد جا کر کہیں وہ لکڑی خراب ہو جاتی ہے فوراً یا ایک آدھ دن میں دیمک سے لکڑی

کبھی بھی خراب نہیں ہوتی) یہاں لٹھی خراب ہو گئی، ثوٹ بھی گئی جبکہ سلیمان عالیہ السلام کھڑے تھے، کوئی بھی تغیر نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی سالم رکھتا ہے۔ یہاں میں حیاتِ انبیاء کرام علیہم السلام کے منکرین سے یہ عرض کروں کہ کیا یہ منکر لوگ ”فرعون“ کے جسم کو سالم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ مانتے ہیں فرعون آج بھی مصر کے عجائب گھر میں سالم پڑا ہوا ہے فرعون کو تو ہزاروں سال ہو چکے ہیں جبکہ اسے پانی بھی لگا تھا اور پانی سے جسم جلد خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی تک تو وہ بھی سالم پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَالْيَوْمَ نَنْجِيْكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً (یونس: ۹۲)

”سو (بجاے نجات مطلوبہ کے) آج ہم تیری لاش کو (پانی میں نہ شین ہونے سے) نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد (موجود) ہیں۔“ (بیان القرآن)
یاد رکھیں کہ کسی کے جسم کا سالم ہونا (مرجانے کے بعد) یہ کوئی خدائی تو نہیں ہے۔ خدا کا تو جسم ہے ہی نہیں، جسم کا ہونا تو مخلوق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو شرک کہنے سے تو شرک کا (بھیانک پن) بھیانکی (خباشت، کراہیت) ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ لوگ بات بات پر شرک شرک کہہ کر شرک کی کراہیت (بھیانکی) لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں الجلتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرعون کا بھی جسم سالم ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی جسم سالم ہے تو فرق کیا ہوا؟

جواب یہ ہے کہ فرق تو بہت ہے (انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کا سالم ہونا شرف، احترام اور کرامش ہے جبکہ فرعون کے جسم کا سالم ہونا عبرتا ہے) مثلاً قرآن کریم میں حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ابراہیم عالیہ السلام کا نام بھی ہے فرعون و نمرود کا نام بھی ہے اور ہامان و قارون کا بھی ہے تو فرق ہے یا نہیں؟ ایک کاذک تعریف کے لیے ہے اور دوسرے کاذک نہ مدت کے لیے۔ اسی طرح انسان کا گوشت بھی حرام ہے، اور کتنے کا گوشت بھی حرام ہے تو فرق ہے یا نہیں؟ اسی طرح

حرم کا کبوتر اگر کوئی شکار کرے اس کا گوشت حرام ہے اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے تو فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے کیوں کہ ایک بخس ہے اور ایک شریف ہے۔

فرعون کے جسم کو باقی رکھنے کی حکمت

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام اعزاز محفوظ ہیں۔ جبکہ فرعون کا جسم عبرتاً محفوظ ہے تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ یہ ہے وہ خدا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے (اور) دیکھو کیسے پھیلیے پاؤں پڑا ہے (بھلا خدا ایسے ہوتے ہیں العیاذ بالله) (فرعون کے جسم کو باقی رکھنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے لیے تماثر عبرت بن کر پڑا رہے، اس کے علاوہ ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ) اگر وہ ڈوب جاتا تو شاید کسی کو مغالطہ ہو جاتا کہ فرعون خدا تھا اس لیے آسمانوں پر اڑ گیا ہو گا اس لیے (مخلوق کو اس مغالطے سے بچانے کے لیے) سامنے لا کر رکھ دیا گیا کہ دیکھو یہ ہے وہ خدا جو اپنے کو خدا کہتا تھا۔

تو بہر حال! حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ وہ انسانیت سے بالاتر ہیں، خدا کے بیٹے، یا (معاذ اللہ) خدا کے اجزاء ہیں (کیوں کہ یہ حقیقت کے سراسر خلاف باشیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسان ہیں) البتہ انسانوں میں وہ اعلیٰ اور اکمل ترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں (اس شانِ اکملیت و افضلیت کے ساتھ) ایسا بنایا تھا کہ ان پر وحی نازل ہو۔ میں مثال بیان کرتا ہوں کہ ہوائی جہاز بھی لو ہے سے بنائے اور سائکل بھی لو ہے سے بنی ہے۔ (دونوں میں فرق یہ ہے کہ) جہاز اڑنے کے لیے بنائے، اب بتاؤ کیا سائکل بھی کبھی اڑی ہے؟

بطورِ مثال ایک واقعہ

لاہور میں رکشے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ گاؤں کا ایک سیدھا سادہ آدمی جو کہ گاؤں میں

گدھا گاڑی چلا یا کرتا تھا لا ہور آیا۔ لا ہور آ کر اس نے غیر معمولی رفتار کے ساتھ دوڑتے ہوئے رکشوں کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ پھر اس نے ایک جاننے والے سے پوچھا کہ یہ رکشے آخر اس قدر تیز کیسے دوڑتے ہیں (وہ بیچارہ سادہ تھا، اس نے سوچا کہ رکشوں میں تو آگے گدھے بھی نہیں بندھے ہوتے ہیں پھر بھی اتنی رفتار سے چلتے ہیں جبکہ گدھا گاڑی میں تو باقاعدہ ایک صحت مند گدھا بھی بندھا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس سے کم رفتار کے ساتھ چلتی ہے) خیر اس جاننے والے نے اسے بتایا کہ یہ انجن کا کمال ہے اس نے پوچھا انجن کیا ہے؟ خیر اس نے ایک جگہ سے اسے انجن بھی دکھلادیا کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے انجن۔ اب اس سادے آدمی نے سوچ کہ اگر میں یہی انجن خرید کر اپنی گاڑی میں فٹ کر دوں پھر تو میری گدھا گاڑی تیز چلتے گی یہ سوچ کر ایک عدد انجن خرید کر گاؤں لے آیا۔ گاؤں آ کر اس نے خوشی خوشی انجن کو گاڑی میں جوڑا انجن فٹ کر لینے کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ گاڑی چلتے، گاڑی نے نہ چلنا تھا سونہ چلی، چلتی بھی کیسے؟ کیوں کہ انجن تو اس کے لیے بنا ہی نہ تھا۔ خیر اس نے انجن کھولا اور لا ہور لا کر اس جاننے والے کو صورت حال بتلادی کہ یہ انجن میری گاڑی میں نہیں چل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے کوئی گاڑی میں لگایا تھا؟ اس نے کہا: گدھا گاڑی میں لگایا تھا۔ بہر حال اس دانامرد نے اسے سمجھایا کہ بندہ خدا یہ انجن رکشے کا ہے اور رکشے کے لیے ہی بنا ہے۔ عرض کا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں میں اکمل ترین و اعلیٰ ترین انسان ہیں وہ وحی (کی عظیم الشان امانت) کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تاکہ ان پر وحی الہی کا نزول ہو۔ (حاصل کلام یہ ہے کہ جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درجے کو بڑھانا ٹھیک نہیں ہے ایسا ہی ان کے مرتبے کو بڑھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔)

تیرہویں مجلس رہبانیت اور ترتیب کی یہ میں فرق

آپ آداب سیکھیں

(حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر ایک اہم ادب کی طرف راہ نمائی فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے کچھ اشکالات اور شبہات ہیں وقت اشکالات و شبہات کا نہ تھا ویسے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں اگر میں ایک ایک شبے کا ازالہ کروں گا تو میرے لیے مشکل بھی ہے (دوسری بات یہ ہے کہ) آپ آداب بھی سیکھیں کہ مثلاً آپ تو چلیں فارغ ہیں اب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کا مخاطب بھی فارغ ہے یا نہیں؟ ہماری اصلاح نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر بے صبری ہے ہم صرف اپنے اوقات کو دیکھتے ہیں بس ہم فارغ ہیں تو ہم ملیں گے بات کریں گے۔ دوسروں کے اوقات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی فارغ ہے یا نہیں۔ ہم ایک مرتبہ رائے دندگئے، حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب مدظلہ بھی ساتھ تھے۔ ہم دونوں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا زیر الحسن صاحب مدظلہ کی ملاقات کے لیے بھی گئے، حضرت ہمارے ساتھ مجبت فرماتے ہیں۔ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور حضرت مولانا زیر الحسن صاحب سے گلے ملے (غالباً گلے ملنے کا یہ موقع مناسب نہ تھا اس لیے) کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمیں حضرت سے مجبت ہے اس لیے گلے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا نے (مزاحا) فرمایا کہ مجبت کرنے والے ہزاروں ہیں اور میں اکیلا ہوں، اگر سب لوگ گلے لگا سیں گے تو مشکل ہوگی۔

(عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ) آپ دوسروں کے اوقات کی بھی فکر کھیں کہ وہ بھی آخر انسان ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہوگی۔ اب ہمین دعا کے وقت میں آ کر کہتے ہیں کہ مجھے شبہات ہیں اب آدمی دعائیں مشغول ہو تو اس کے لئے جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے یا جیسے کسی آدمی کو تقاضہ لگا ہوا ہوا اور آپ اسے روک کر کہیں کہ میری بات سیں اور جواب میں یہی کہے گا کہ اگر میں تیری بات سنوں گا تو پا جامہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ یہاں سیکھنے آئے ہیں سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ذکر سیکھیں بلکہ آپ آداب بھی سیکھیں۔ کیوں کہ آداب ضروری ہیں۔

رہبنا نیت اور ترزیہ میں فرق

ان ساختی کے شبہات اور سوالات تو بہت تھے۔ البتہ ایک سوال تھا کہ رہبنا نیت اور ترزیہ میں کیا فرق ہے؟ سوال تو بڑا آسان ہے اسی طرح جواب بھی آسان ہی ہے۔ کہ رہبنا نیت یہ ہے کہ انسان نہ شادی کرے، نہ بیوی بچوں میں رہے۔ بس ہمیشہ خلوت میں رہے۔ عبادت میں رہے۔ اکیلے زندگی گزارنا یہ ہے ”رہبنا نیت“ اور ترزیہ کہتے ہیں اصلاح کو کہ دل میں اچھے جذبات پیدا ہوں اور برے جذبات ختم ہوں۔ یہ تو ہے (اس ساختی کے) سوال کا جواب۔ لیکن سائل ہے ذیں آدمی۔ ممکن ہے اس پوچھنے والے کا سوال سے مطلب یہ ہو کہ ترزیہ کے حصول کے لئے بھی تو آدمی اعتکاف کرتا ہے، بیوی وغیرہ سے مانا ب بھی جائز نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی کچھ وقت کے لیے کسی غار میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح نبی کریم ﷺ غارِ حرام میں تشریف لے جاتے تھے اس شبے کا جواب یہ ہے کہ غارِ حرام میں تشریف لے جانا آپ ﷺ کا، اسی طرح اعتکاف کرنا یہ وقت ہیں یعنی ایک وقت تک کے لیے انسان گھر سے دور ہو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ جبکہ رہبنا نیت کا الگ ہونا داعی ہے۔

غیر اللہ کی محبت دل سے نکالنے کا مطلب

اس ساختی کا ایک اور سوال بھی اہم تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی محبت دل سے نکال لیں۔ اب انسان کے دل میں بیوی بچوں کی بھی محبت ہوتی ہے (جبکہ بیوی بچے بھی تو غیر اللہ

ہی ہیں) تواب ان کی محبت دل سے کیسے نکالیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محبوب لذات (یعنی اصلی اور حقیقی محبوب) اللہ تعالیٰ ہیں۔ کیونکہ وہ تنہا تمام کالات کا مالک ہے۔ اپنے نام اللہ ہی کے ہیں۔ انسان کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہے۔ باقی بیٹھے کی محبت، پوتے، نواسے کی محبت یہ عارضی اور وقتی محبتیں ہیں (انسان تو انسان جانوروں میں بھی یہ اولاد کی محبت ہوتی ہے) مرغیاں بھی کرتی ہیں یہ رحم کی محبت ہے جو کہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو بچوں کی تربیت میں خلل آئے گا۔ یہ محبت ضرورت کی حد تک ہے، دائیٰ نہیں ہے۔ جیسے تقاضے کے وقت انسان کو بیت الخلا سے کسی درجے کا تعلق اور تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے نہ کہ دائیٰ۔

ان محبتوں میں واضح فرق یہ ہے کہ جس چیز کو آپ مقدم سمجھتے ہیں وہ آپ کا محبوب لذات (یعنی اصلی محبوب) ہے۔ اور اگر (یہ محبت) مقدم نہیں ہے تو پھر یہ مذموم بھی نہیں ہے کیونکہ اسم تفصیل کے صیغہ بتلارہے ہیں (اشد حب اللہ والی آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اشد اسم تفصیل کا صیغہ مذکور ہے) کہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول ﷺ سے زیادہ محبت ہو۔ اب پتہ کیسے چلا سیں گے (کہ کسی کی محبت زیادہ ہے) تو تقابل کر کے دیکھیں کہ ان محبتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت تو متاثر نہیں ہو رہی ہے (اگر نہیں ہو رہی ہے تب کوئی فکر کی بات بھی نہیں ہے) باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن سے محبت نہ ہو جیسے شیطان سے محبت نہ کریں کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ضد ہے۔ باقی میٹھے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی ضد نہیں ہے ہاں البتہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے کم ہو۔ اولاد وغیرہ سے طبعی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ البتہ ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ پر قربان کرنا مسلمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایت کو اولاد وغیرہ پر قربان کرنا سارخسارہ ہے۔ تباہی ہے بے ایمانی ہے۔

چودہویں مجلس

انسان کو پیش آنے والی مصیبتوں کے فوائد اور ان کی حکمتیں

انسانی صلاحیتیں حرکت اور عمل سے پیدا ہوتی ہیں

اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے ان صلاحیتوں کو برپا د کرنا انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے ”عمل“ کی قوت ہے۔ عمل کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں جاگ جاتی ہیں۔ تمہارے اندر کی قوتوں کو ہمیشہ عمل بیدار کرے گا۔ جو لوگ جائز دنیاوی کام کرتے ہوں ان کو آپ دیکھیں جب وہ تحرک ہوتے ہیں تو ان کی اس تحریک سے بہت سارے مفید نتائج نکلتے ہیں۔ اور جو لوگ دین کے کاموں میں اعمال صالحی میں نماز، روزے حج وغیرہ میں اہتمام سے لگتے ہیں تو انہیں ان کے فوائد و ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی ان اعمال میں جتنا مضبوط ہو گا اتنا ہی اس کی قوتیں اور صلاحیتیں مضبوط اور بیدار ہوں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قوم یا جو شخص خوشحالی کی حالت میں ہوتا ہے جیسے عافیت ہے، سکون ہے، مال کی فراوانی ہے، فراغت ہے، تو ایسے حالات میں انسان کی توجہ اعمال سے (عموماً) بہت جاتی ہے (جس کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں کا بسا اوقات نقصان کا اندر یہ شہد ہوتا ہے اس لیے) اس کے لیے اللہ پاک اس کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اس پر کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ یہ مصیبت اور آفت صرف جگانے اور تحرک کرنے کے لیے ہوتی ہے (یعنی انسان کے لیے اس مصیبت میں بھی خیر ہی ہوتی ہے اگرچہ انسان اسے ناپسند اور مکروہ سمجھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے):

وَعَسْتَ أَنْ تَكُرَّ هُوَ اشِنَّاؤْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (البقرة: ۲۱۶)

”اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گران سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔“

(بيان القرآن)

اس مصیبت سے آپ گھبرا نہیں نہیں (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں):

اَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (سورة السجدة: ۳۰)

”تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو۔“ (بيان القرآن)

گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مسلمان بھی کبھی گھبرا تا ہے؟ اللہ اکبر! مسلمان کبھی بھی نہیں گھبرا تا اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے جو بھی حال پیش آتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے (اگرچہ ہم نہ سمجھیں) مثلاً ایک آدمی سورہ ہے (اور اس کا اس وقت کسی بھی وجہ سے جاگ جانا ضروری ہو اور اسی اثنائیں) اس کی ناک پر اوپر سے آم آکر گرے تو کیا ہو گا؟ جاگ جائے گا۔ تو جاگ جانے میں کیا قباحت ہے (خاص کر جبکہ جاگ جانا ہی ضروری ہو تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی لیکن ساتھ ہی ایک مقصود بھی حاصل ہو گیا) تو یہ مصائب وغیرہ جگانے کے لیے ہوتی ہیں۔

المصیبت میں بیتلاؤگ دو طرح کے ہوتے ہیں

آفت اور مصیبت میں بیتلاؤگ دو طرح کے ہوتے ہیں:

(۱) ایک وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ اپنی صلاحیتوں کو بر باد کر رہے ہوتے ہیں۔

(۲) دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ (وہ اپنی کوتاہی اور شلطی کو تلاش کر کے کہتے ہیں کہ) یہاں سے شلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ محنت شروع

کر دیں گے، اور ترقی کر لیں گے۔ گویا ان لوگوں کے لیے مصیبت بخوبی تجربہ کے ثابت ہو جاتی ہے۔ جاپان (کے دو شہروں) پر امریکہ نے ایتم بم مار گرائے۔ نتیجے میں ناگاساکی اور ہیروشیما کو راکھ کا ڈھیر بنادیا جاپان کو اس واقعے کا بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اختیار کا مقابلہ مشکل ہے تو دوسری طرح ان سے مقابلہ کرتے ہیں اقتصادیات میں مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جاپان نے صرف چالیس سال (یا کم و بیش) میں اقتصادیات میں اپنا لوہا منوایا ہے (آج پوری دنیا میں Mad in Japan کی ایک ولیو اور امتیازی شان ہے) تو یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ مایوس کبھی بھی نہ ہوں۔ مصیبت آپ کو جگاتی ہے، بیدار کرتی ہے۔ (اس لیے مصیبت سے بجائے مایوس اور پریشان ہونے کے بیدار ہو جانا چاہئے) اور اگر آپ ان چکروں میں لگ گئے کہ یوں کرتا تو یوں ہوتا اور یہ نہ کرتا تو آج یہ نہ ہوتا تو اس سے کیا فائدہ؟ آپ یہ بتائیں کہ اس جمع و تفریق سے آپ کو کیا ملے گا سوائے اس کے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں۔

غزوہ احمد میں ظاہری شکست کی حکمتیں

جب غزوہ احمد میں مسلمانوں کو بظاہری شکست ملی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ظاہری (اجتہادی) نظری پر منزہ کیا کہ کہ دیکھ لو یہ تجربہ ہے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ (یعنی پیغمبر کی اطاعت میں کمی نہ کرنا) آپ سورۃ آل عمران پر چھیں۔ اس سورۃ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شکست کے بڑے فوائد ہیں۔ یہ تمہاری صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اور تمہارے درمیان غلط لوگ آگئے تھے (اس شکست کی وجہ سے) ان منافقوں کو الگ بھی کرنا تھا۔ ۱۔ جب

۱۷۶

۱۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْحِجَّةِ فِي أَذْنِ اللَّهِ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

(آل عمران: ۱۷۶)

(ترجمہ) اور جو مصیبت تم پر اس روز پڑی جب کہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سوہہ اللہ کی مشیت سے ہوئی تا کہ اللہ مؤمنین کو جان لے اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ (تفصیر ماجدی)

طالبان کی حکومت تھی تو کالی گپڑی اور داڑھی طالب ہونے کی علامت اور رشانی تھی۔ (جبکہ بہت سارے لوگ گپڑی اور داڑھی والے تو تھے لیکن وہ حقیقت طالبان نہ تھے اس لیے) میں بعض ذمہ دار ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو (تحقیق کرو) کہ یہ طالب ہے بھی یا نہیں؟ کیوں کہ گپڑی بازار میں سوروپے کی ملتی ہے اور داڑھی خود اگتی ہے۔ پھر جب آفت آئی تو طالبان ایک طرف ہو گئے اور غیر طالبان دوسری طرف ہو گئے۔ اسی طرح جب احمد میں شکست ظاہری کا معاملہ پیش آیا تو منافقین دم دبا کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ (احمد کی ظاہری شکست سے متعلق) فرماتے ہیں کہ اس شکست کے ذریعے خبیث (یعنی منافقوں) کو طیب (یعنی مسلمانوں) سے جدا کرنا تھا۔ جب اچھوں اور بروں کا ملغوب ہوتا کیا کریں گے، اچھوں کو الگ کریں گے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے (اس شکست سے متعلق) یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اندر یہ باتیں تھیں مثلًا یہ کہ ہم مسلمان ہیں ہر حال میں فاتح ہی ہوں گے۔ ہم تھوڑے ہوں یا زیادہ، جنگ اصول سے لڑیں یا بے اصولی سے، کامیابی ہر حال میں ہمارا مقدر ہے، تو جب یہ شکست آئی تو پتہ چلا کہ میدان حفاظت کی جگہ ہے نہ کہ آرزوؤں کی جگہ۔

اس شکست کا ایک فائدہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے تم مضبوط ہو گئے ہو کیوں کہ جس آدمی نے موت نہ دیکھی ہو، تھکن نہ دیکھی ہو، جنگ نہ دیکھی ہو تو جب ایسے آدمی پر اچانک کوئی بڑا معاملہ آئے گا تو وہ گھبرا جائے گا۔ (اور جس نے پہلے سے یہ سب چیزیں دیکھی ہوں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہیں گھبراۓ گا تو) اس لیے ان حالات میں آدمی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زیادہ غم نہیں کرتا۔ جیسے ابھی مجاہدین میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو انہیں بہت زیادہ غم نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزان کے معمولات میں سے ہے۔ تو مصائب مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ البتہ آپ اللہ سے مصائب نہ مانگیں بلکہ ہمیشہ عافیت ہی مانگیں۔ نبی کریم ﷺ نے عافیت مانگی ہے۔ لیکن جب مصیبہ آئے تو گھبرا نہیں بھی نہیں! آج کل کے جو حالات ہیں ان سے گھرا نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اپنے عمل کو تیز کرو۔ یہی تمہارا کمال ہو گا کہ تم اپنے عمل کو تیز کرو۔ اللہ تعالیٰ

ہمیں جگار ہے ہیں۔ کبھی بھی فکر نہ کریں، مایوس نہ ہوں۔ صرف اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی (یعنی اللہ کا دین) ہم سے نہ چھوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات حضور ﷺ کے طریقے کے مطابق پورے ہوں۔ آپ ﷺ کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے۔ ایسے حالات میں اگر موت بھی آئے تب بھی نہ گھبرائیں۔ وگرنہ جن لوگوں پر جنگی جہاز گولے بر سار ہے ہیں وہ بھی تو شہید ہوتے ہیں۔ آخر سوچ تو سبی کافر مر کر جہنم جاتا ہے جبکہ مومن جنت جاتا ہے تو فکر کی کیا ضرورت ہے۔

کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے حباب نہیں بن سکتی

کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے حباب (پردہ) بن سکے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک برتر ہیں اس سے کہ کوئی چیزاے چھپائے۔ کیا دنیا میں اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھپائے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ جو چیز خدا کو چھپاتی ہے (العیاذ بالله) وہ خدا سے بڑی ہو گئی۔ مثلاً ایک دیوار ہے وہ ہمیں چھپاتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہم سے دیوار بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ مثلاً صفت علم کو ہی لے لیں (صفت علم کی مثال اس لیے دی) کہ جھگڑے اکثر اسی صفت میں ہوتے ہیں ورنہ تو اللہ کی کوئی صفت مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ مخلوق صاف آئندہ ہے اسی میں جو خیر نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اشکرتی ہیں۔ جیسے آگ کی تاثیر گرم کرنا ہے (تو وہ گرم کرتی ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی ہر ہر صفت کی ایک تاثیر ہے مثلاً حُنَّ کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی میں رحم کا مادہ پیدا ہو تو ان صفات کا مخلوق پر اثر ہوتا ہے) اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ اردو زبان میں ”محتر“ صاحب اختیار کو کہتے ہیں۔ جبکہ عربی میں ”محتر“ پسند کرنے والا یا پسندیدہ کو کہا جاتا ہے (اس باب کا اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں اسی وزن پر آتے ہیں) انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسب کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لِيَلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً (الملک: ۲)

”تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔“ (بیان القرآن) اب جس چیز کو تم مخلوق کہو گے تو اس میں صفت کہاں سے آگئی (جبکہ وہ تو خود مخلوق ہے ظاہر ہے ہر ہر چیز میں اپنے خالق کی محتاج ہے) اصول یا درکھیں کہ مصنوع میں صانع کی صفات ہو، ہی نہیں سکتی جیسے شیپ ریکارڈر ہے یا موبائل فون ہے مثلاً یہ تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں تمہارے ساتھ کی صفت میں شریک ہیں؟ کسی صفت میں بھی شریک نہیں ہیں۔ نہ سچ میں نہ بصر میں (نہ ہی دوسری صفات میں بلکہ) یہ وہی یوتا ہے جو اس میں ریکارڈ ہو۔ یہ چیزیں تم نے بنائی ہیں تو بنائی ہوئی چیزیں اور بنانے والے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔

بہر حال عرض یہ کرو ہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی چیز اسے چھپا سکے، حجاب اگر ہے تو وہ انسان کے اندر ہے یہ خود محبوب ہے (یعنی پر وہ اس کی ذات پر ہے اللہ پر نہیں ہے) آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی میں انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں تو اب اس روشنی کو اگر ایک کروڑ گناہ مزید بڑھا دیا جائے تو آپ کو چیزیں تو درکنار خود روشنی بھی نظر نہیں آئے گی اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ روشنی نہیں ہے بلکہ روشنی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح آواز کی بھی ایک حد ہے اگر آواز اس حد سے بڑھ جائے تو آپ کو سنائی نہ دے بہر حال! ہماری آنکھ سے متعلق یہی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پاسکتیں۔ (بہر حال جبابات خود انسان کے اندر ہیں جیسے تکبر، حب جاہ، حب مال، کینہ بغض اور دیگر اخلاق رذیلہ تو دل کی یہ بیماریاں انسان کو اللہ سے دور کھٹی ہیں۔ اس دنیا میں انسان صرف دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کچھ مشاہدہ کر سکتا ہے وہ بھی شب جب کہ دل پینا ہو۔ دل سے ان برے اخلاق کا صفائیا ہو، بہر حال جب دل صاف ہو گا تو انسان دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کر سکے گا۔)

پندرہویں مجلس

ادب کو لازم پکڑیں

بے ادب محروم ہوتا ہے

ادب و احترام اور اللہ کے نام کے ساتھ لگی ہوئی چیزوں کی عظمت و تعظیم یہ دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ عام مشہور بات ہے کہ بے ادب محروم ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ شخص جس کے اندر ادب نہ ہو محروم ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو (آپ ﷺ کے تشریف لے جانے بعد) جس جگہ نبی کریم ﷺ کا محراب تھا (یعنی سجدے کی جگہ تھی تو اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے دیوار کھڑی کر دی اور دیوار کی مدد سے اس جگہ کو اس لیے بند کر دیا کہ تاکہ اس جگہ کسی کا غلطی سے پاؤں نہ پڑے جہاں آپ ﷺ کا سرمبارک لگا ہو) اس بات کو غور سے سنیں، آج کل بڑی گستاخیاں ہوتی ہیں، لوگ علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فقرے کرتے ہیں۔ بس جو ذہن میں آگیا اس کو دین بنالیا۔ پھر جس کے خلاف جو دل میں آتا ہے کرتا ہے یہ لوگ اس کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ (یاد رکھیں) اگر آپ کے سینے میں ادب ہے تو آپ کبھی بھی محروم نہ ہوں گے۔

نبی کریم ﷺ منبر کی آخری سیر ہی پر پیان فرماتے تھے جب ابو بکر صدیق ؓ خلیفہ بنے تو آپ ﷺ ادب کی وجہ سے ایک سیر ہی نیچے تشریف فرمائے۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا عمر فاروق ؓ خلیفہ بنے تو آپ ﷺ ان سے (حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے) بھی نیچے بیٹھے ادب کی وجہ سے، یہاں ادب ہے، آج کل اس میں بڑی کوتا ہیاں ہوتی ہیں، ادب کو شرک کہا جاتا ہے بدعت وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے یاد رکھیں! جو شخص ادب کو لازم پکڑتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا قطعاً بھی

محروم نہ ہوگا۔ اے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ادب کو لازم پکڑیں، استاد کا ادب، اسی طرح علماء کرام، مساجد اور بڑوں کا احترام کریں۔ آپ یہ احترام اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ادب و احترام شمار ہوگا۔

حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا ایک واقعہ

حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ہدایت کا سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ وہ جارہ ہے تھے تواریخ میں انہیں ایک کاغذ کا فکٹری املا۔ جسے لوگ رومند رہے تھے۔ انہوں نے اس کا غذ کواٹھا کر دیکھا تو اس پر ”اللہ“ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا غذ کو پہلے اچھی طرح صاف کیا۔ پھر عطار کی دکان سے ایک درہم کا عطر خرید کر اس کا غذ پر لگا دیا پھر اس کا غذ کو ایک محفوظ چکر پر لے جا کر ادب کے ساتھ رکھ دیا تا کہ دوبارہ اس کی بے احترامی نہ ہو۔ رات کو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ کوئی (غیبی) آوازان سے کہہ رہی تھی کہ تو نے اللہ کے نام کو خوبصوردار کیا میں تیری دنیا اور آخرت کو خوبصوردار کروں گا۔

اذان کے ادب و احترام کی برکت

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ ایسی زبان میں بات کرنے لگی جو کہ گھروں کو سمجھنیں آرہی تھی، اس لیے وہ لوگ قریبی عالم کو بلا کر لے آئے کہ ہمارے ہاں ایک عورت حالت نزع میں ہے اور بکواس کر رہی ہے۔ توجیب وہ امام صاحب آئے تو اس نے سنا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی عربی زبان میں کہ:

۱. عن ابن الزناد ان النبی ﷺ کان يجلس على المجلس ويضع رجليه على الدرجة الثانية فلما ولى أبو بكر قام على الدرجة الثانية ووضع رجليه على الدرجة السفلية فلما ولى عمر قام على الدرجة السفلية ووضع رجليه على الأرض اذا قعد اخرجه وفاء الوفاج ۳۹۸ ص ۲

هَذَا نِرْجُلَانِ يَقُولَانِ (إِنْ) أَذْخُلِي الْجَنَّةَ

”یہ دو آدمی ہیں جو کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔“

اس عالم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ عورت پڑھی لکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، پڑھی لکھی نہیں ہے بلکہ جاہل عورت ہے۔ عالم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ عورت عربی زبان میں بات کر رہی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ اس کے بعد وہ عورت انتقال کر گئی۔ اس عالم نے اس گھروالوں سے پوچھا کہ یہ عورت کیا (ایک) عمل کیا کرتی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سادی عورت تھی، زیادہ با تین بھی نہیں کرتی تھی نہ ہی، بہت کچھ جانتی تھی البتہ اذان کا بڑا احترام کرتی تھی۔ اذان کے وقت با تین نہیں کیا کرتی تھی بلکہ (ادب کی وجہ سے) خاموش ہو جاتی تھی۔ تو پھر اس عالم نے انہیں بتایا کہ یہ یقیناً اسی ادب کی برکت ہے۔ (بہر حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ادب کو لازم پکڑیں انشاء اللہ تعالیٰ کا میراب رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)

سو ہوں مجلس

اپنی بیویوں پر صبر کریں

فَعَسْنِي أَنْ تَكُرَّ هُوَ اشْيَاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ۱۹)

”تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔“ (بیان القرآن)

اگر آپ شریعت کے مطابق چلتے ہیں، حق پر استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، تو زندگی کی ناگواریوں سے نہ گھبرائیں۔ (کیوں کہ) وہ (ناگواریاں) تمہارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہو گا کہ آپ کے گھر میں بیوی آئی، وہ (کسی وجہ سے) آپ کو پسند نہیں ہے۔ مثلاً آپ حسین ہیں وہ غیر حسین ہے۔ تو آپ صبر کر لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی خیر ہیں ڈالیں گے کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ایسی اولاد نصیب کرے جو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔ اور کیا معلوم مثلاً اگر وہ عورت زبان سے تیز مزاج ہے تو اس کے اندر بہت ساری اور خوبیاں ہوں۔ اس لیے یہ تو دیکھ لینا چاہئے کہ وہ عورت شریعت کے خلاف نہ ہو اور اس میں شریعت کے خلاف کوئی عیب نہ ہو۔ باقی کسی اور ناگواری سے (زیادہ) دل برداشتہ نہ ہوں۔ (بیویوں کے معاملے میں یہ چیز یاد رکھیں کہ) اگر آپ کی بیوی میں زیادہ اوصاف نہیں ہیں تو آپ پر پیشان نہ ہوں۔ بہت سارے بڑے بڑے بزرگ بیویوں کی ایذ ارسانیوں کی وجہ سے بزرگ بننے ہیں۔

شاہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ

حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں لا کر (شہر میں) فروخت کرتے تھے (گدھے گھوڑے کی بجائے) شیر پر سواری کیا

کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید با صفاتِ ملکان سے خرقان آئے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آکر انہوں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اور ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ اس وقت ان اللہ کی بندی کا مزاج بگڑا ہوا تھا اس لیے (غصے سے) کہنے لگی: کونے حضرت؟ جب عورت کا مزاج بگڑ جائے تو اللہ اکبر! پھر تو بڑی چیز بن جاتی ہے۔ وہ عورت پاکدا من اور عفیف تھی پس زبان سے زبردست تھی۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب کو برآ بھلا کہنے لگی کہ ان کی ایسی کی تیسی۔ وہ مرید تو بڑے پریشان ہو گئے اور شیخ کی تلاش میں جنگل کا رخ کر گئے (انہیں غالباً اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ گھر پر نہیں ہیں) جنگل میں آکر انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ شیر پر سوار آ رہے ہیں۔ ان مرید صاحب نے ان سے ملاقات کی اور واقعہ سنایا کہ حضرت مجھے بڑا صدمہ ہوا انہوں نے ان مرید کو سمجھایا کہ پریشان نہ ہوں۔ (کیونکہ) اگر میں ان کی ایذہ ارسانیوں پر صبر نہ کرتا تو آج شیر پر سوار نہ ہوتا یہ شیر مجھے صبر کے نتیجے میں ملا ہے۔ ۱

یہ حضرات یہویوں کی ایذہ اؤں پر اس لئے صبر نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیویاں بہت زیادہ حسین ہوتی تھیں بلکہ اس لیے صبر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے بس صبر شکر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ انتظام والی نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی منتظمہ نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر عفت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بھی بیوی کی اچھی صفت کو لے لیں اور گزارہ کر لیں۔

حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو واقعات

ایک اور واقعہ یاد آیا، ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا مرزا مظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اس قدر حساس تھے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ

سردیوں کی وجہ سے پوری رات نہیں سو سکے تھے۔ کسی نے صحیح حال پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا سردی کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی۔ (یہ حال سن کر) وہاں کی ایک خاتون نے ایک بڑا عمدہ لحاف بنایا کہ بطور ہدایہ خدمت میں بھیجا۔ اس رات بھی نہیں سو سکے تھے صحیح پوچھا گیا کہ حضرت کیا حال ہے۔ فرمایا رات بھر نیند نہ آئی نیند نہ آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس لحاف میں سلامی کے گندے ٹیز ہے تھے، اس ٹیز ہے پن کی وجہ سے نیند نہیں آئی کیوں کہ طبیعت میں اس سے گرانی ہوئی۔ (حساس ہونے کا یہ عالم تھا) کھانا معمولی بھی زیادہ تناول فرماتے تو طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ اللہ کی شان یہ کہ ان کی بیوی عفیف اور بہت اچھی صفتوں کے ساتھ ساتھ زبان کی حد درجہ تیز تھی۔ حضرت کا ایک افغانی پٹھان مرید تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے انہیں گھر بھیجا کہ جا کر کھانا لے آؤ! وہ چلا آیا دروازے پر دستک دے کر اطلاع بھجوائی کہ حضرت کھانا مانگتے ہیں۔ افغانوں اور پٹھانوں کی سخت باتیں ہوتی ہیں، زم لہجہ ان بیچاروں کے پاس کم ہی ہوتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ پیر صاحب کھانا مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی ادھر سے چلانی کہ کون سے پیر؟ یوں اور یوں، بہر حال خوب بر ایحلا کہا۔ اب ان افغانی صاحب نے خیال کیا کہ اس عورت کو چھری سے مارنا چاہئے کیوں کہ اس نے میرے پیر کے خلاف باتیں کی ہیں۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ پیر صاحب کی بیوی ہے ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب خفا ہو جائیں۔ خیر واپس آ کر حضرت سے کہنے لگا:

حضرت! میں اس کو مارنا چاہتا تھا (چھری سے) خروہ نج گئی۔ وہ (آپ کے خلاف) ایسی ولیٰ باتیں کرتی تھیں۔ (وہ باتیں بھلا) میں کب برداشت کر سکتا تھا۔ حضرت نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندے! اس کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے نوازتے رہتے ہیں۔ ای ادر ہے کہ عورتوں کے اندر تھوڑا بہت ٹیز ہاپن موجود ہوتا ہے۔ یہاں کی فطرت ہے۔ لیکن اس کا یہ ٹیز ہاپن ہی اس کی خوبی ہے۔ یہی اس کا حسن ہے۔ جیسے پسلیاں ٹیز ہیں تو پسلیوں کا ٹیز ہاپن ہی پسلیوں کا حسن ہے۔ اگر پسلیاں سیدھی ہوتیں تو انسان کیسے بد صورت نظر

آتا، یوں چکور ہوتا۔ تو یہی ٹیڑھاپن ہی اس کی خوبی ہے۔

اس لیے آپ غم نہ کریں بلکہ گزارہ کریں۔ یہ یوں میں کیڑے نہ نکالیں۔ بس یہ دیکھیں کہ اگر عفیف ہے دیندار ہے تو سب ٹھیک ہے فکر نہ کریں۔ اللہ کا شکر کریں۔ اور اگر آپ یہوی پر عاشق ہو گئے تو پھر آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔

ستر ہوئے مجلس ذکر اللہ کی کثرت کیجئے

ایک مرید دوپیز

”تذکرۃ الرشید“ میں ہے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد کتنے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ استاد تو میرے بہت ہیں البتہ پیر میرے دو ہیں۔

(۱) بادشاہ کا سپاہی: بادشاہ کا سپاہی میراچیر ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سپاہی بادشاہ کی خدمت کے لیے صبح سوریے جا گتا ہے اور خدمت کرتا ہے۔ اور اگر یہ صبح وقت پر نہ جا گے تو اسے تنخواہ پوری نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو اللہ مجھے تب نوازیں گے جبکہ میں ٹھیک ٹھیک چلوں۔

(۲) دوسرا پیر میرا ایک طوطا ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ میرے محلے میں ایک طوطا تھا جو کہ بہت اچھی اچھی باتیں جانتا تھا۔ ایک مرتبہ جب بلی نے اس پر حملہ کیا تو وہ (موت کے ڈر سے) تکلف اور بناوٹ کی وہ ساری باتیں بھول گیا۔ اور وہ ”ٹین“ نکالی جو اس کی فطری آواز تھی۔ وہ اپنی بناوٹی خوب صورت با تین بھول گیا کہ مثلاً بلی! مجھے مت کھاؤ میں ایسا ہوں، میں دیسا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس طوطے کے واقعہ سے مجھے یہ سبق ملا کہ مجھے ذکر میں اس قدر مشغول ہو جانا چاہئے کہ ذکر میری فطرت ثانیہ بن جائے۔ اور پھر جب موت کا پنجھ آئے تو میں طبعی طور پر دل سے کہوں اللہ، اللہ۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ تمام باتوں کو بجالا کیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ تمام باتوں سے منع ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں مثلاً نماز میں ہوں تو ہم خوش ہوں کہ

ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی بادشاہ سے ملتے ہیں تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ سے ہماری ملاقات ہو گئی جبکہ آپ تو حکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ آمنے سامنے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحہ: ۳)

”ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں۔“

(بيان القرآن)

اسی طرح ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمجھیں، اور ہر وقت ذکر سے اپنی زبان کو ترکھیں۔

”ہمارا ایک ساتھی تھا، اچھا آدمی تھا لیکن بدعاۃت کی طرف مائل تھا پہلے لوگ میرے خلاف یہ پروپیگنڈہ کیا کرتے تھے کہ یہ تبلیغ کا مخالف، اب بھی لوگ اس قسم کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں لیکن اس وقت یہ پروپیگنڈہ زیادہ تھا (آپ یہ سمجھیں کہ) ایک ہے تبلیغ سے منع کرنا کہ کسی تبلیغی کے ساتھ بغض کی وجہ سے کہہ کہ مت جاؤ! یہ تو ہے مخالفت۔ اور ایک ہے (کسی بھی وجہ سے) کسی کو عارضی طور پر وقت لگانے سے روکنا یا خود نہ جانا تو یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ تقسیم کار ہے کہ کوئی تدریس کرے گا، کوئی تبلیغ کرے گا اور کوئی تصنیف اور کوئی جہاد کرے گا، یہ سب کام ضروری ہیں۔

تو میرے بارے میں لوگ یہ (بھی) کہتے تھے کہ یہ تبلیغ کا مخالف ہے۔ تو اس نسبت سے وہ ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ ہمارے مزاج کا آدمی ہے (کیونکہ وہ خود تبلیغ کا مخالف تھا اور بریلوی بھی تھا) لیکن جب یہاں اس نے کچھ دن گزارے تو کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی دونوں معاملوں میں۔ ایک تو تبلیغ کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ تبلیغ کے مخالف ہیں۔ حالانکہ آپ کا شیخ تو تبلیغ کا سر پرست ہے پھر وہ کہنے لگا کہ چلو تبلیغ کی مخالفت سے تو میں بھی باز آ جاؤں گا لیکن ہماری تو اور بھی غلطیاں ہیں۔ (پھر وہ بتانے لگا کہ) ہمارے علاقے میں مزار تھا اس میں ہم ایک دروازے میں سے اندر ہوتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس کام پر لگایا تھا۔ (وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ) اب میں تو توبہ کر لوں گا لیکن ان

لوگوں کا کیا بننے گا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو انہیں یہ غم لگ گیا تھا بعد میں۔ (ان کی موت سے متعلق ہم نے سنا کہ) جب موت کا وقت تھا تو وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ذکر کرتے کرتے اچانک دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ لوگ ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور وہ راستے میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی ضربیں لگا رہے تھے اس ذوق و شوق سے لگا رہے تھے کہ اور لوگوں کو بھی (اس وقت) اس پر لگا دیا تھا، ذکر کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہر حال! عرض یہ ہے کہ آپ ہر وقت ذکر میں لگے رہیں، انشاء اللہ خیر نصیب ہو گی۔

اسماء الحسنی کے فوائد

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف: ۱۸۰) (بیان القرآن)
 ”اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سوان ناموں سے ہی اللہ کو موسوم کیا کرو۔“
 اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سارے اچھے نام، جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ان میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگیں۔

اسماء الحسنی بہت مجرب ہیں۔ جس شخص نے بھی صدقی دل سے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اسے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، بلکہ اللہ ضرور اس کی مراد کو پورا کرے گا۔ لیکن (اسماء الحسنی کے ذریعے دعا مانگنا) صحیح دل، صحیح عقیدے اور پختہ یقین کے ساتھ ہو۔ یہاں (خانقاہ) میں جو اسماء الحسنی کا ذکر ہوتا ہے یہ بطور مشق ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ یہاں اس کی مشق کر کے اسے سیکھیں پھر گھر میں اس پر عمل کریں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں:

(۱) ان اسماء کے ذریعے سے دعا مانگنا خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

فَادْعُوهُ بِهَا..... (الاعراف: ۱۸۰)

اللہ کی صفت بہت بڑا واسطہ ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوا (کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہوا)

(۲) اسماء الحسنی ذکر ہے، تو اس کے پڑھنے سے ذکر کا بھی تواب ملے گا۔

(۳) ان کے ذریعے سے اللہ حاجت بھی پوری کر دے گا، کیوں کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت بھی پوری کرے گا۔ جیسے بھکاری کسی کا دروازہ بجا تے ہیں دستک دینے ہیں تو جو ہوشیار قسم کے بھکاری ہوتے ہیں وہ دستک دینے کے بعد آواز بھی دینے ہیں کہ مثلًا اے بھی جوان !! مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ہیں میں فقیر ہوں مجھ پر سخاوت کر۔ تو اسی طرح جب آپ اللہ سے یہ سوال کریں گے:

یا اللہ یار حمن، یار حیم

”اے اللہ، اے نہایت مہربان، (اور) اے رحم کرنے والے۔“

تو اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ (آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ) اے اللہ آپ مہربان ہیں، رحمن ہیں۔ جبکہ میں رحم و مہربانی کاحتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمادے گا۔

(۴) چوتھا فائدہ (اسماء الحسنی کا) بڑا ہم فائدہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جذب اور قبول کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ جیسے آپ یوموں کا نام لیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ (ایسا اس لیے ہوا کہ آپ یوموں سے متاثر ہو گئے) یوموں ایک بے جان چیز ہے (تو جب ایک بے جان چیز کے تاثر کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ پاک کی زندہ جاوید ذات کے ناموں کے تاثر کا کیا عالم ہو گا اس لیے) جب آپ اللہ زندہ جاوید ذات کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات بھی آپ پر ہوں گی۔ جیسے آپ کہیں! ”یا کریم“ اے بھی۔ تو اس کی برکت سے اللہ سخاوت بھی فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو سخاوت (والی صفت) بھی نصیب فرمادیں گے۔

اب جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے (ان اسماء الحسنی کا) اتنے ہی (آپ پر صفات ذاتی پاری تعالیٰ کے) اثرات مرتب ہوں گے اور یہ اتنا مجرب ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ خلوص کے ساتھ پڑھیں تو اللہ حاجت برآری فرمائیں گے۔

بیماری ہو یا کسی مخلوق کا ڈر ہو تو یہ پڑھیں

اگر بیماری ہو تو یہ (مندرجہ ذیل اسماء الحسنی کثرت سے) کہیں:

یا اللہ، یا حلیم، یاروف، یارب، یامنان

”اے اللہ! اے بڑے بردبار، اے بہت بڑے مشق، اے پالنے والے اے احسان

کرنے والے۔“

اگر بیوی سے مغلوب ہو یا (کسی بھی مخلوق سے مغلوب ہو مثلاً) امریکہ کا ڈر ہو تو (مندرجہ

ذیل اسماء الحسنی کا کثرت سے ورد کھیں:

یا عزیز یا حکیم

”اے سب پر غالب آنے والے اور حکمتون والے۔“

لفظ ”اللہ“ کہتے وقت یہ تصور کر لیا کریں

ان اسماء الحسنی کا ذکر ایسا کریں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب آپ ”اللہ“ کہیں تو یہ تصور

کریں کہ جیسے آپ آسمان سے گر رہے ہیں اس وقت آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا

نہیں ہوتا۔ سارے سہارے کافور ہو جائیں۔ صرف ایک سہارا باقی رہ جاتا ہے اور آپ تھنے اور

تھنے کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں، تو ایسے وقت میں جو کیفیت ہو، اسی کیفیت سے اللہ کا نام

پکاریں۔ اور دعا نہیں مانگیں۔

اسم اعظم سیکھنے والے ایک شخص کا واقعہ

ایک واقعہ سناتا ہوں۔

حضرت امام جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آئے اور آکر عرض کیا کہ مجھے اسم اعظم

سکھائیں! امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور دریا میں کو دجا کیں۔ پھر چلتے

رہیں اور (میرا نام) یا جعفر یا جعفر کہتے رہیں۔ پھر جب آپ دریا پار کر جائیں تو آکر مجھے قصہ سنادیں۔ یہ سن کرو ہ شخص چلا اور دریا میں اتر پڑا اور یا جعفر یا جعفر کہتے ہوئے چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ڈوب جانے کے قریب ہوتا چلا گیا اسے ڈوب جانے کا خوف بھی دامن گیر رہا بہر حال وہ چلتا رہا۔ پھر ایک بڑی موج آئی، موج کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ اسے اپنے ڈوب جانے کا یقین ہو چلا اور سارے سہارے بے وقت نظر آئے۔ تو بس دفعہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا ”یا اللہ“ (چونکہ پوری یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ اس نے اللہ کو یاد کیا تھا اس لیے قبولیت میں دیر بھی نہ ہوئی) یا اللہ کا کہنا تھا کہ اس بڑی موج نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر ساحل دریا پر دے مارا۔ بہر حال اس نے واپس آکر حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو سارا قصہ سنایا۔ قصہ سن کر امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

کہ تیری دریا میں جو کیفیت ہو چلی تھی بس اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہی اسم اعظم ہے۔ (مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پکاریں تو کامل یکسوئی، اور پختہ یقین کے ساتھ پکاریں۔ ان شاء اللہ اس طرح کا پکارتا ہمارے تمام دھکوں کا مد او اثابت ہوگا) اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو یہ طریقہ بتائیں کہ فلا نے کا نام لو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نام لے لے کر ڈوب مرے تو دنیا سے شرک کی حالت میں جائے گا۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو یہ تعلیم دی۔ شاید ان کو کسی طرح سے یہ معلوم ہوا ہو کہ ان کی اصلاح اس طرح سے ہو جائے گی۔

اٹھار ہو یں مجلس

تصوف کی چند اصطلاحات

سالک کے کہتے ہیں

جب اللہ تعالیٰ کا بندہ مسلمان اپنے رب کی طرف چلا شروع کرتا ہے یعنی مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو ”سالک“ کہا جاتا ہے۔ یعنی سالک و شخص ہے کہ جو اپنے مالوفات، لذات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر اللہ کی مرضی کی طرف چلتا ہے۔

”وصال“ کا مطلب

پھر ایک وقت آتا ہے کہ سالک کی مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے اسی (مطابقت) کو اصطلاح تصوف میں ”وصال“ کہا جاتا ہے۔

چند شبہات کا ازالہ

بعض لوگ ناجھی اور بعض عناد کی وجہ سے تصوف کی ان اصطلاحات پر اعتراض کرتے ہیں (مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ”سالک“ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ لازم آیا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کہیں تشریف رکھتے ہیں اور یہ سالک اسی طرف جا رہا ہے حالانکہ اللہ پاک سمت، جہت مکان وغیرہ سے پاک اور منزہ ہے بظاہر تو یہ اشکال بڑا وزنی معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ صرف اور صرف حماقت یا خباثت ہے حقیقت پچھلی بھی نہیں ہے (اور اس طرح کے اعتراضات ہمیشہ یا تو پوری بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مثلاً ادھوری بات سن لی اور بس فوراً کہہ دیا کہ او ہو یہ تو شرک ہے، فلاں ہے وغیرہ یا پھر عناد کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بات

پوری معلوم بھی ہے اور سمجھہ میں آبھی رہی ہے مگر وہ زبردستی اس بات کو نہیں سمجھتا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ عناد والوں کی عناد اور بغرض کا تو کوئی بھی علاج نہیں ہے بس اللہ ہی انہیں ہدایت دے ہاں البتہ جو لوگ پوری بات سے ناواقف ہوتے ہیں ان کے لیے پوری بات کا عرض کرنا ضروری ہے) اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

فَيُرُوْا إِلَى اللَّهِ (الذریت: ۵۰)

”تو تم اللہ ہی کی (توحید کی) طرف دوڑو۔“ (بیان القرآن)

(آیت مذکورہ کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے، اب ہم ذرا ”سالک“ کے معنی پر اعتراض کرنے والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرات ذرا اپنی زبان سے اس آیت کا مفہوم ارشاد فرمائیں، کیوں کہ جو اعتراض انہوں نے سالک کے معنی پر کیا ہے وہی اعتراض قرآن کریم کی اس آیت پر بھی بظاہر ہو سکتا ہے۔ پس جو جواب آپ کا ہے وہی جواب ہمارا بھی ہے) اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف چلنے سے مراد دل کا چلننا ہے، نہ کہ پاؤں کا چلننا۔ اور وصال کا مطلب یہ ہے کہ صرف مرضیات اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جاویں۔ (نہ کہ جسمًا ملنا جیسے کہ عام لوگ آپس میں ملتے ہیں معاذ اللہ) وصال پر بعض لوگوں نے ایسی تعبیریں کی ہیں جن سے عقیدہ حلول کا شبهہ ہوتا ہے (جو کہ سراسر غلط ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ کوئی مخلوق اس میں حل ہو جائے) حالانکہ وہ مرضیات ہی کی بات ہوتی ہے بس تعبیر کا بہام ہوتا ہے۔

بسط کی تعریف

تصوف کی دو اصطلاحات سن لیجئے: (۱) بسط (۲) قبص

بسط: یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان خوش رہتا ہے۔ عبادات کرتا ہے۔ (بس دل میں انبساط کی سی کیفیت ہوتی ہے) عبادت میں ذوق و شوق ہوتا ہے۔ اس حالت کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔

فائدے یہ ہیں کہ آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے (اور خوب اعمال میں ذوق و شوق سے لگا رہتا ہے)

نقسان (بسط والی حالت) کا یہ ہے کہ انسان میں اس سے عجب اور تکبیر پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بسط میں انسان کو خود پر بزرگی کا شہد ہوتا ہے حالانکہ بزرگ ہوتا نہیں ہے اس کیفیت کا علاج یہ ہے کہ انسان اس حالت کو نعمت سمجھ کر عاجزی اختیار کرے، ناز اور عجب میں بتلانہ ہو۔

قبض کی تعریف

بسط والی حالت کا کل بیان ہوا تھا، آج ”قبض“ پر بات کریں گے قبض سالک کی وہ حالت ہے جس میں سالک کو اعمال صالح کا شوق نہیں ہوتا یا بلا وجہ ادا س رہتا ہے یا یکسوئی ہو جاتی ہے۔ اس (قبض کے پیدا ہونے کے) کئی وجوہات ہوتی ہیں۔

☆ گناہ اور بد نظری کی وجہ سے قبض آجائے۔

☆ بعض مرتبہ بلا وجہ دل خفا ہوتا ہے یہ بھی قبض کی صورت ہے۔

☆ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبض کی حالت مسلط کردی جاتی ہے۔

بسط کی طرح قبض کے بھی نقسانات اور فوائد دونوں ہیں۔

نقسانات یہ ہیں:

جب قبض کی حالت ہوتی ہے تو بعض اوقات آدمی بعض نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ کبھی کبھی تو بہت سارے اعمال چھوڑ دیتا ہے۔ فائدہ یہ ہے قبض والی حالت کا کہ (اس حالت کے باوجود بھی) جب انسان اعمال صالح میں لگا رہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ درجہ اس صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں مجاہد ہے جبکہ بسط والی حالت میں مجاہد نہیں ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے خط لکھا کہ جب مزہ آتا ہے تب اعمال کرتا ہوں (اور جب مزہ نہیں آ رہا ہوتا تب اعمال رہ جاتے ہیں) ان بزرگ نے انہیں جواب دیا کہ آپ مٹھائی والے اعمال

کرتے ہیں مٹھائی والی نماز پڑھتے ہیں۔ (مقصد یہ تھا کہ انسان کو ہر حال میں عمل کرتے رہنا چاہئے چاہے دل چاہے نہ چاہے) قبض والی حالت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ استقامت کی صفت قبض میں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اللہ والے بسط کے مقابلے میں قبض والی حالت پر زیادہ خوش ہوتے تھے۔ (کیونکہ قبض میں انسان اکثر صرف اللہ ہی کے لیے عمل کرتا ہے چونکہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اس لیے اس عمل میں نفس کا حصہ بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے) ایک بزرگ سے یہ مقولہ منقول ہے کہ:

إِنْ صَلَّىٰ ثُقَدَ أَشْرَكَ ثُ وَإِنْ لَمْ أُصْلَىٰ فَقَدْ كَفَرَ ثُ

”اگر میں (بسط والی حالت میں دل کے چاہئے کی وجہ سے) نماز پڑھلوں تو (یہ ایسا ہی ہے کہ گویا) میں نے شرک کیا (کیوں کہ نماز تو صرف اللہ ہی کے حکم سے پڑھنی چاہئے تھی جبکہ میں نے دل کی چاہت اور نفس کا مزہ بھی اس میں ملا لیا تو یہ شرک ہی ہے) اور اگر (اپنے نفس کی چاہت کے برخلاف چلوں اور) نمازنہ پڑھوں (اب چوں کہ نماز فرض حکم ہے جس کا جان بوجھ کر بغیر کسی سبب وعدہ کے چھوڑ نا بندے کو کفر سے ملا دیتا ہے اس لیے) تو (یہ ایسا ہی ہے کہ گویا) میں نے کفر کیا۔“

بہر حال آپ اعمال پر (ان مذکورہ) دو حالتوں میں اپنا عمل جاری رکھیں۔ ان شاء اللہ دوام عمل کی برکتیں نصیب ہوں گی۔

انیسوں میں مجلس

بدگمانی کے اسباب اور اس کا علاج

آج کل اکثر لڑائی جھگڑے بدزبانی اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے فسادات پھوٹتے ہیں۔

بدگمانی کسے کہتے ہیں

بدگمانی یہ ہے کہ بلا دلیل کسی کے متعلق غلط رائے قائم کرنا، (بلا دلیل کا مطلب یہ ہے کہ) اگر دلیل ہو تو پھر بدگمانی نہ ہوگی۔ (بدگمانی کی) مثال جیسے ایک آدمی جارہا ہے جس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ اور اس آدمی کے ہاتھ میں بوقلمون بھی ہے۔ اب بدگمانی یہ ہے کہ (دیکھنے والا یہ سمجھے کہ) یہ لڑکا اور لڑکی شوقيہ ساتھ ہیں اور بوقلمون شراب کی بوقلمون ہے۔ (یہ تو ہوئی دیکھنے والے کی رائے جبکہ) حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں اس کے پیچے ہیں اور بوقلمون پانی کی بوقلمون ہے۔ (اب یہ بلا دلیل ایک غلط رائے قائم کر لی گئی جو بدگمانی تھہری، اس وجہ سے ہمیں چاہئے کہ دیکھتے ہی کوئی منفی رائے کبھی بھی قائم نہ کریں بلکہ جہاں تک ممکن ہو ثابت رائے قائم رکھیں) مجھے ایک آدمی ملا اس نے مجھے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بتایا کہ میں ایک مرتبہ کہیں جارہا تھا تو راستے میں وہ بھی آگئے اس نے مجھے دیکھا تو وہ زمین پر تھوکنے لگا۔ یہ صرف اس نے مجھے جلانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی تھوکا ہے یہ تو بدگمانی ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے اسی طرح ایک اور آدمی ملا اس نے مجھے بتایا کہ فلاں اور فلاں جو کبھی کبھی آپس میں ملتے رہتے ہیں تو وہ صرف مجھے جلانے کے لیے ملتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ بھائی کیوں بلا وجہ بدگمانی کرتے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت

ہے کہ وہ تمہیں جلانے کے لیے ملتے ہیں۔ الغرض بدگمانی کی اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں بلکہ خود ہمارے اندر بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

بدگمانی کی وجہات

یاد رکھیں بدگمانی ہمیشہ چند وجہات کی بناء پر انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ (وہ وجہات یہاں بیان کیے جاتے ہیں)

☆ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے عیوب سے بے خبر ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب آدمی کی نظر اپنے عیوب پر نہیں رہتی تو وہ اور لوگوں میں عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔

☆ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا وقت گز بڑا خود آدمی میں ہوتی ہے پھر آدمی خود جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی دیسا ہی سمجھتا ہے مشہور ہے کہ:

السرارِ یقینیں علیٰ نقیبیہ

”انسان (اور انسانوں کو) اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے (کہ جیسے میں ہوں یہ بھی ایسا ہی ہے، نیک سب کو نیک اور بد اکثر سب کو بد ہی سمجھتا ہے)

طوطے کا واقعہ

مولانا نارویؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک طوطا پاپ رکھا تھا اور اس نے طوطے کو بولنا سکھایا تھا اس آدمی کی دکان تھی جہاں طوطا بھی دن بھر اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ طوطے نے کسی قیمتی تیل کی شیشی گردی جس سے وہ تیل ضائع ہوا مالک دکان کو بڑا غصہ آیا چنانچہ اس نے بطور سزا طوطے کے سر کے بال نوچ لیے جس سے وہ گنجایا ہو گیا پھر انہی دنوں اس دکان پر ایک گنجایا گا کہ آیا طوطے نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا چونکہ وہ بولنا جانتا تھا اس لیے کہنے لگا اورے گنجے میاں تو نے بھی تیل کی شیشی گرانی تھی مقصد یہ ہے کہ طوطے نے اس آدمی کو

خود پر قیاس کر لیا کہ جیسے میری حالت تیل کی شیشی گرا دینے سے یہ ہوتی ہے تو اس کی یہ حالت بھی شاید تیل گرانے کی سزا میں ہوتی ہو جالانکہ بات ایسی نہ تھی بلکہ طوٹے نے غلط قیاس کیا تھا۔

☆ کبھی ایک بڑی وجہ ہے بدگمانی کی۔ کیونکہ کبھی میں انسان خود کو تو اور وہن سے افضل سمجھتا ہی ہے ساتھ دوسروں کو خود سے حقیر بھی سمجھتا ہے بس اسی وجہ سے اکثر بدگمان رہتا ہے۔

☆ منفی سوچ بھی اکثر بدگمانی کا سبب ہوتی ہے (کیونکہ ثابت سوچ تعمیری سوچ ہے جبکہ منفی سوچ تحریمی سوچ ہے پس منفی سوچوں والا شخص خامیاں ہی سوچتا رہتا ہے)

☆ بسا اوقات بدگمانی کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے (جو کہ اگرچہ بذاتِ خود کوئی بری وجہ نہیں ہے، لیکن اس مرض سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ) بسا اوقات آدمی (کسی معاملے میں) کئی بارہ سا جا چکا ہوتا ہے دھوکہ دیا جا چکا ہوتا ہے بس پھر کیا ہوتا ہے کہیں بھی جب اس نوعیت کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو (اول وہلے وہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی دھوکے باز نہ ہو) تو کئی مرتبہ کہیں سے دھوکہ کھانا بھی بدگمانی کا سبب ہوتا ہے۔

بدگمانی کے نقصانات

بدگمانی کا اثر یہ ہے کہ انسان میں جذب کی صلاحیت ہے تو جب یہ برائیوں کی طرف متوجہ ہو گا، تو اس میں بھی برائیاں آئیں گی، اور جب خوبیوں کی طرف متوجہ ہو گا تو اس میں خوبیاں پیدا ہوں گی۔ بدگمانی کا دوسرا اثر یہ ہے کہ اس مرض کی وجہ سے اس کے اندر سے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور قد ردانی کا جذب ختم ہو گا جو کہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔ انسانی معاشرے پر بدگمانی کا اثر یہ ہے کہ بدگمانی کے بعد کارروائی کا نمبر آتا ہے تو اس سے پورے معاشرے میں دنگا فساد برپا ہو گا۔

بدگمانی کا علاج

☆ جب کسی پر بدگمانی ہونے لگے تو فوراً خود سے کہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ دلیل تو ہے نہیں، اور آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ۱

☆ جو لوگ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں وہ بدگمانی میں بیٹلا ہوتے ہیں، اس لیے اپنے عیوب پر نظر رکھیں، ایسا کرنے سے آپ دوسروں کے عیوب سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔

☆ اپنی یقینی خرابی کو دیکھیں، دوسروں کی احتمالی خرابیوں کو نہ دیکھیں۔ بلکہ دوسروں کی تو خوبیاں دیکھیں۔ انسان اپنے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

بَلِ الْأَفْسَانُ عَلَىٰ تَقْيِيَهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْلَا أَقْرَنَ مَعَاذِيرَةً (القیمة: ۱۵، ۱۴)

”بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہو گا (گواہ تقفا نے طبیعت اس وقت بھی) اپنے حیلے (حوالے) پیش لائے۔“ (بیان القرآن)

☆ جس سے بدگمانی ہو یا حسد ہو تو اس کی تعریف کریں، دل نہیں چاہے گا مگر آپ پھر بھی کریں ان باتوں پر عمل کر لینے سے انشاء اللہ آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔

بیسویں مجلس

حضرت ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے

آپ ﷺ کی بے ادبی کا انجام

حضرت ﷺ کی محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آدمی منافق بن جائے۔ حکم یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ادب و احترام میں کوئی شخص آپ ﷺ سے آواز اوپنچی نہ کرے (کیوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال بر باد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ (محرات ۲) اعمال کی بر بادی ایمان کے خاتمے کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے۔

ایک شیطانی چال

شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے اس بات پر کہ آدمی کو ایمان سے ایسا خالی کر دے کہ ایمان کا اس میں ذرہ بھی نہ رہے۔ شیطان انسان کو گناہ گار کرنے کے ساتھ ساتھ دین سے بالکلیٰ فارغ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شیطان آج کل آپ ﷺ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہے (کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ) بس محبت ختم ہوتے ہی ساتھ ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یاد رکھیں! آپ ہر ایسی جماعت سے بچیں جو آپ ﷺ کی محبت میں کمی یا خداخواستہ آپ ﷺ کی ذات میں بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہوں۔ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقویٰ کا سبب ہے اور مساجد، انبیاء کرام علیہم السلام یہ سب شعائر ہیں ان سب کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ (بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطانی چالوں میں سے ایک بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے، وہ بنی آدم کے ایمان کے سو فیصد میں سے سو فیصد ہی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا)

ایک سبق آموز واقعہ

وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ سے کسی نے سناروں کی شکایت کی کہ لوگ انہیں زیور بنانے کے لیے جو سونا دیتے ہیں یہ لوگ اس میں سے کچھ اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے حقیقت حال جاننے کے لیے چند سناروں کے پاس اپنے وزیر کو بھجوایا اس نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ سناء ہے کہ آپ لوگ گڑ بڑ کرتے ہیں کیا یہ حق ہے۔ اس نے کہا: ہاں ہے تو یہ حق۔ پھر وزیر نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی گڑ بڑ کرتے ہو اس نے کہا کہ بس ذرا سی کرتا ہوں یعنی کچھ سونا روک لیتا ہوں باقی کا زیور بناؤ کر دے دیتا ہوں۔ پھر وزیر نے دوسرے سنار سے بھی گفتگو کی، اس نے کہا کہ میں آدھا سونا روک لیتا ہوں۔ پھر وزیر تیسرا سنار کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر جان کی امان ملے تو یہ عرض کر دوں، خیر امان دے دی گئی تو اس نے کہا کہ میں سو فی صد سونا روک لیتا ہوں یعنی سارا سونا روک لیتا ہوں اور کسی اور دھات سے زیور بناؤ کر دیتے دیتا ہوں۔ وزیر بڑا حیران ہوا، پھر وزیر نے پوچھا کہ اگر زیور بنانے والا آپ کے پاس کھڑا رہے پھر آپ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں کرتا بہر حال بھی ہوں کہ سونا سارا روک لیتا ہوں زیور دوسری دھات سے بناؤ کر دے دیتا ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کو کارگزاری سنادی۔ تو بادشاہ کو یہ شخص بڑا عجیب معلوم ہوا اس نے سوچا کہ یہ بھی عجیب فنکار آدمی ہے اس کے فن کو دیکھ لینا چاہئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ایک خالی کمرہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اس میں زیور بنانے کے اوزار اور سونا رکھوادیا جائے، کمرے پر سخت کڑا پھرہ دیا جائے پھر اس سنار کی آتے جاتے ہر طرح سے تلاشی بھی لی جاتی رہے، ایسے ماحول میں یہ میں زیور بناؤ کر دے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ چاہے یا جھوٹا خیر ان تمام اہتمامات کے بعد بادشاہ نے ایک عدد خوبصورت ہار کا آرڈر دے دیا، فوج کی نگرانی میں کام شروع ہوا، آتے جاتے وقت سخت ترین تلاشی کے مرحلے سے بھی گزرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے چند دنوں میں۔ زیور تیار ہوا، جس

وقت زیور تیار ہوا تو اس سنار نے فوجیوں سے کہا کہ ایک مٹکا دہی منگوادو، کیونکہ زیور جب نیانیا بنتا ہے تو اس میں چک نہیں ہوتی اس لیے اسے دہی میں دھونا پڑتا ہے جس سے اس کی چک نکھر کرواضح ہو جاتی ہے۔ دہی کا مٹکا حاضر کیا گیا، ہار صاف کر کے نکالا گیا تو واقعی وہ بڑا صاف اور اجلا ہو گیا تھا۔

پادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ہار تیار ہو چکا ہے پادشاہ نے آکر ہار دیکھا۔ پھر پوچھا کہ یہ کس دھات کا ہنا ہے؟ سنار نے کہا کہ خالص تانبے کا ہے، پادشاہ کو یقین نہ آایا پھر چند اور سناروں کو وہ ہار دکھلایا گیا سب نے یہ کہا کہ اس میں ایک ذرہ براہ رونا نہیں ہے بلکہ یہ خالص تانبے ہے۔

اب پادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ جو کمرہ ہم نے اسے دیا تھا اس میں تانبہ تھا نہیں اور جو سونا اسے دیا گیا تھا وہ ہار میں تھا، نہ کمرے میں اور نہ ہی یہ جیب میں لے کر گیا تھا۔ سونا گیا کہاں اور کس راستے سے گیا، اور یہ تانبہ آیا کب اور کیسے آیا۔ یہ سب با تین پادشاہ سمیت فوجیوں کو بھی پریشان کر رہی تھیں۔

خیر پادشاہ نے سنار سے کہا کہ واقعی کی تفصیل سناؤ کر سونا کہاں گیا اور کیسے گیا۔ اور یہ تانبہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ پادشاہ کے حکم کی تعمیل میں سنار پورا قصہ سنانے لگا کہ پادشاہ سلامت ہوا یوں کہ جب میں نے آپ کے کمرے میں سونے کا ہار شروع کیا تو اسی رات میں نے گھر میں تانبے کا بھی ایک ہار بنا شروع کیا۔ انجام کار دنوں ہار مکمل ہو گئے، اب یہ باقی تھا کہ تانبے کا ہار آپ کے کمرے میں منتقل کر دوں اور سونے کا ہار اپنے گھر میں منتقل کر دوں چونکہ تلاشی کا نظام بڑا سخت تھا، اس لیے میں نے اس منتقلی کے لیے یہ ترتیب اور تدبیر سوچی کہ جس دن ہار مکمل ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ کل دہی کا مٹکا لے کر اتنے بجے پادشاہ کے محل کے پاس آ کر آوازیں لگاتی رہتا کہ دہی لے لو، دہی لے لو، ساتھ میں نے بیوی سے یہ بھی کہا کہ وہ تانبے والا ہار مکملے میں ڈال کر لے آنا۔ پادشاہ کے محل میں سے کچھ لوگ آئیں گے تم انہیں یہ مٹکا دے دینا اور ان سے مٹکا واپس کرنے کو کہنا کہ میرے برتن کو واپس کر دیں میں جب اس کو

دوبارہ بھجوادوں گاتو تم اسے لے کر بحفاظت گھر چلی جانا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن ایسا ہی کیا مجھے دہی کی ضرورت ہوئی تو آپ کے سپاہی وہی خرید کر لے آئے میں نے ان کے سامنے اس میں سونے والا ہارڈ بکر رکھ دیا اور تھوڑی دری بعد تابنے والا ہار باہر نکال کر ان کے حوالہ کیا ساتھ ہی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ دہی مزید ہمارے کسی کام کی نہیں ہے یہ واپس اسی عورت کو دے کر آ جانا بیچاری غریب ہوگی، استعمال کر لے گی یا پھر فروخت کر لے گی۔ چنانچہ سپاہیوں نے میرے کہنے کے مطابق مٹکا اسی عورت کو واپس کر دیا، بس اس طرح سے آپ کے سونے والا ہار ہمارے گھر چلا گیا اور ہمارے گھر کا تابنے والا ہار آپ کے محل میں آیا۔

پادشاہ اور درباری اس سنار کا یہ کارنامہ دیکھ کر انہی کی حیران ہو گئے۔ الغرض یہ کہ پادشاہ نے ان سے توبہ کرو اکر بہت بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ اس واقعہ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سنار کی طرح شیطان بھی ہمارے ایمان کو مکمل طور پر چرانے کی کوشش میں ہے اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی تدبیریں بناتا رہتا ہے اس لیے آپ محتاط رہیں۔ شیطان سنار کی طرح کمال کرتا ہے کہ ہار بظاہر ہار ہے سونے کا لیکن اسی میں رتی بھرسونا بھی نہیں ہے تو ایسا ہی بسا اوقات شیطان ایمان ایسا اچک لیتا ہے کہ آدمی بظاہر ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوتا ہے مگر دل میں رتی برابر بھی ایمان باقی نہیں ہوتا۔

انگریزوں کی سازش ہے کہ لوگ علماء کرام سے بدظن ہو کر ان کے خلاف باتیں کریں۔ آپ یاد رکھیں! جو لوگ علماء کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ہمارے آدمی نہیں ہیں۔ لندن میں باقاعدہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر ایسے کافر مولوی نما لوگ پیدا ہوتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ایمانوں میں شک و شبہ ڈالیں ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ (اللدان کے شر سے ہم سب کی پوری طرح حفاظت فرمائے اور ان کے عز اعظم کو اللد خاک آلو دکر دے)

اکیسوں مجلس

صاجزادگان سے خطاب

قَالَ سَأُؤْتِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ طَقَّاً لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
إِلَّا مَنْ رَحِمَ جَوَاحِدَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (هود: ۳۳)

”وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی (میں غرق ہونے) سے بچا لے گا۔ نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم (یعنی قهر) سے کوئی بچانے والا نہیں لیکن جس پر وہی رحم کرے اور دونوں (باپ بیٹے) کے بیچ میں ایک موقع حائل ہو گئی پس وہ (ابھی مش دوسرے کافروں کے) غرق ہو گیا۔“ (بيان القرآن)

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کافی عرصہ (تبليغ کر لینے کے) بعد حکم دیا کہ کشتی بناؤ! جس میں مسلمانوں کو سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اگرچہ عفیف تھی لیکن خاندانی جاہلیت اور تعصّب کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو (کافی) ترغیب دی مسلمان ہو جانے کی لیکن وہ نہ مانا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اسے پانی میں غرق کر دیا گیا۔

صاحبزاده کامطیب

آج کی بات میں اخون زادگان اور صاحبزادگان سے کہنا چاہتا ہوں اخون زادہ کا مطلب ہے استاد کا جیٹا اور صاحبزادہ کا مطلب ہے پیر کا جیٹا۔ (یاد رکھیں) تمہارا دادا بڑا پیر یا بڑا عالم بھی ہوتا ہے جسی نبی تو نہیں ہو سکتا تو پھر تم کیوں مغرور ہو؟

بڑوں کی اولاد میں عموماً محروم ہوتی ہیں

آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں کے بیٹے (عام طور سے) محروم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے یہاں فیصلہ طلب پر ہے نہ کہ صاحزادگی پر۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص طالب بن کر طلب لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہہ دیں کہ ہست جاؤ! (تم تو عام سے آدمی ہو) پہلے صاحزادہ صاحب کو آنے دو۔ سب اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا دوست بنایا، اس کے باوجود بھی ان کے باپ کا اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہ کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے مغفرت کی دعائماً لکھنے سے منع فرمایا گیا۔ کہ باپ کے لیے دعا نہ مانگو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیویؓ اور حضرت نبی کریمؐ کے پچھا ابو طالب یہ ایمان سے دور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لحاظ کرتے ہیں ہدایت کی طلب رکھنے والوں کا اور اللہ ہمیشہ طلب والوں کو ہی

۱۷۸ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَاتَّبِعَنَ لَهُمْ
۱۷۹ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِّيمِ ۵۰ وَمَا كَانَ اسْتَغْفِرًا إِبْرَاهِيمَ لَا يَبْلُغُ الْأَغْنَىٰ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
۱۸۰ أَنَّهُ عَذُولٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوْلَادُ حَلِيلِهِ ۵۰ (التوبہ: ۱۷۸-۱۸۰)

(ترجمہ) نبی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ (مشرکین) رشتہ دار ہی ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ (اموات) اہل دوزخ ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے حق میں دعا نے مغفرت کرنا تو محض وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعقیب ہو گئے یہیک ابراہیم بڑے سی زم دل (اور) برداشتھے۔ (ماجدی)

۱۸۱ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتٌ نُوْحٌ وَأَمْرَاتٌ لُؤْطٌ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
۱۸۲ صَالِحِيْنِ فَحَانَتَهُمَا فَلَمْ يُعْيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقُبِيْلٌ اذْخَلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ ۵۰ (التحیریم: ۱۸۱-۱۸۲)

(ترجمہ) اللدان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی وہ دونوں جمارے (خلاص) صالح بندوں میں سے دونہ دوں کے نکاح میں تھیں لیکن انہوں نے ان کے حق صالح کے تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے معاملہ میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے اور دونوں عورتوں کو حکم ملا کہ تم بھی دوزخ میں داخل ہو اور داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ (تفہیر ماجدی)

ہدایت دیتے ہیں۔ نہ کہ بے طلب لوگوں کو جو ہدایت سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔

صاحبزادگان کو ایک مشورہ

صاحبزادگان یاد رکھیں! کہ تمہارے بڑوں کو اعزاز ملائھا عاجزی کو اختیار کر لینے کی وجہ سے۔ جبکہ تم اس اعزاز کو معتبری (نکبر اور غرور) سے باقی رکھنا چاہتے ہو۔ (سوچو! کہ) کیا یہ ممکن ہے؟

بڑوں کے بیٹے بڑے ٹیز ہے ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ (تو گھمنڈ ہے کہ میں پیر کا بیٹا ہوں البتہ ایک اور بھی وجہ ہے مجملہ دیگر وجوہات کے وہ یہ ہے کہ) مرید بھی انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ پسیے ہدایا اور بے جا عزت ان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں۔ (اس لیے مریدین کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہئے) صاحب مبارک (کریونہ شریف کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت جاہد عبد الغفور سواتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے نہ کہ لوگوں کی عزت کرنے سے۔ (صاحبزادگان یاد رکھیں) کہ اگر وہ عاجزی اختیار کر لیں تو یہ اپنے باپ سے بھی بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے تواضع اختیار کی تھی فقیری کے زمانے میں ہم پادشاہی میں فقیری کرنے والے ہو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خود نیک نہ ہو وہ باپ کی نیکی سے بزرگ نہ ہوگا۔

(ایک پشتو کہاوت ہے)

کمہ ناوے چہ چہ نچلہ خائست نہ وی
خوک بنتے نہ کاندی خائست سوروانیا

”جو دہن خود اپنی ذات سے خوبصورت نہ ہو تو (اگر چہ اس کی ماں اور نانی بڑی حسینائیں ہوں) اس کی ماں اور نانی کے حسن کو کوئی کیا کرے گا (یعنی کیافائدہ اصل تو یہ ہے کہ دہن خود حسین ہو) عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود سے نیک ہو باپ دادا کی نیکی اس کے کیا کام آئے گی۔ اس لیے کوشش کریں خود نیک بنیں، داڑھیاں رکھیں، تواضع اختیار کریں اور خیر کے کام کریں۔

اعتكاف کے چند ضروری مسائل

حضرت والا مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میسویں روزے کو فجر کی نماز کے بعد فرمایا: آج سے باقاعدہ اعتكاف شروع ہوگا۔ کچھ لوگ پہلے ہی سے اعتكاف میں بیٹھے ہیں وہ بھی خوش بخت ہیں۔ مجھے بھی کل ہی بیٹھنا تھا اور دل بھی چاہ رہا تھا لیکن اس لیے نہ بیٹھاتا کہ یہاں کے لوگ روزوں کے بارے میں کسی شے کاشکار نہ ہوں (یعنی لوگ پھر بلا وجہ میسویں روزے کو اکیساں خیال کرتے) نبی کریم ﷺ ہر سال اعتكاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتكاف مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد سے مراد عبادت والا حصہ ہے باقی آگے پیچھے کی جگہیں مسجد نہیں ہوتیں (مراد اس سے مسجد کا وضو خانہ، مسجد کے بیت الحلا وغیرہ ہیں) ہم نے اپنی مسجد بتدریج بڑھائی ہے، مسجد کے مینار کی سیڑھیاں مسجد کا حصہ ہے (اس سے مراد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خانقاہ سے متصل مسجد ہے، باقی یہ حکم عام نہیں ہے کہ ہر جگہ مینار کی سیڑھیاں مسجد کے حکم میں ہو بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر متولی مسجد نے وہ سیڑھیاں مسجد کا حصہ قرار دی تو پھر وہ مسجد کا حصہ ہوں گی وگرنہ نہیں) مینار کی سیڑھیاں چونکہ مسجد کا حصہ ہے (اس سے بھی مراد مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والی مسجد ہے، حکم عام نہ سمجھا جائے) اس لیے اس کے آداب بھی مسجد والے آداب ہی ہیں۔

نفل نماز (تلاؤت) کے لیے وضو کر سکتے ہیں کیونکہ نفل اگرچہ خود نفل ہے لیکن وضو تو اس کے لیے بھی فرض ہی ہے۔ مختلف نفلی وضو نہیں کر سکتا، (نفلی وضو سے مراد وضو عربت ہے یعنی وضو ہے پہلے سے پھر بھی ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کرنا یہ مختلف کے لیے منع ہے) اگر سر مسجد سے باہر ہو تو اعتكاف برقرار ہے لیکن اگر پاؤں بھی گئے تو آپ بھی گئے (یعنی اعتكاف ختم ہو جائے گا اعتكاف کے دوران فرض غسل کے علاوہ کوئی اور غسل نہ کریں البتہ اگر مجبوری ہو تو وضو کے دوران ہی اپنے اوپر پانی بہائیں جلدی جلدی۔ مختلف کا سونا بھی عبادت ہے۔ مختلف ضروریات زندگی (جیسے کھانا، قضاۓ حاجت) کے لیے باہر جا سکتا ہے (کھانے میں یہ تفصیل

ہے کہ اگر کوئی لانے والا نہ ہو یا لانے والا ہے تو سہی لیکن اجرت مانگتا ہے۔ خوشی سے نہیں لاتا تو پھر اس صورت میں مختلف خود جاسکتا ہے) ہاتھ دھونے کے لیے اور خروج رتع کے لیے باہر نہیں جانا چاہئے۔ (خانقاہ میں چونکہ اعتکاف کے ایام میں ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے بسا اوقات مسجد میں وسعت کے باوجود بھی کمی ہو جاتی ہے اس لیے اس بات کے پیش نظر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا) اگر اعتکاف میں ساتھی زیادہ ہوں تو جن لوگوں کا اعتکاف نہیں ہے تو وہ کمروں میں جا کر سوئیں پھر فرمایا کہ اصول کے مطابق اعتکاف کریں ایک سال تک فائدہ محسوس ہوگا۔

بائیسویں مجلس

احکامِ الہی کے درجات کی حکمتیں

ایک عام غلط فہمی

اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے رہا ہے تو اس حکم کی حیثیت کیا ہے فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کے کئے ہوئے احکامات کے بھی درجات ہیں۔ ان (متفاوت درجات کی وجہ سے) بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ فرائض ضروری ہیں باقی سنت اور مستحب توبہ شوائب ہی کی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی عملی زندگی برپا د ہو جاتی ہے۔ احکام موجہ (یعنی کرنے کے کام) کی طرح احکام سلبیہ (یعنی نہ کرنے کے کام جیسے زنا، جھوٹ وغیرہ) کے بھی متفاوت درجات ہیں (جیسے حرام ہے، ناجائز ہے مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تنزیہی ہے) اس میں بھی بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ مثلاً فلاں چیز ہم کر رہے ہیں تو وہ حرام نہ ہوں پھر گویا کہ کر سکتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے سارے احکام پر عمل ہونا چاہئے دراصل احکامات کے ان درجات اور فرق کی جو وجہ ہے اسے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ احکامات کے ان متفاوت اور مختلف درجات عمل کرنے یا نہ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ انکار کے وقت یہ درجات دیکھنے جائیں گے (کہ خدا نخواستہ مثلاً کوئی آدمی کسی حکم کا منکر ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں یہ فلاں حکم نہیں کرتا تواب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ فرض یا حرام اعمال میں سے تھا تو پھر یہ انکار کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ حکم فرض نہیں بلکہ سنت ہے یا مثلاً جائز ہے تو اب انکار کرنے والا اگر چہ کافر تو نہ ہو گا البتہ وہ فاسق اور بدترین گناہ گار ضرور ہو گا) ہم نے (کیا کیا کہ) درجاتِ حکم کو عمل کا درجہ دے دیا ہے جس سے عملی

زندگی میں فرق آیا۔ حالانکہ عملاً تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں یعنی فرض کی طرح سنت و منتخب بھی عمل ہی کے لیے ہیں اسی طرح حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ ناجائز و مکروہ اور مشتبہ سے بھی بچنا ہی ہے نہیں کہ اس حرام سے فتح گئے باقی جو چاہیں کرتے پھر میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا چاہئے۔

چے عاشق کا مذہب

جو سچا عاشق ہو گا وہ فرض، سنت، اور منتخب نہیں دیکھے گا بلکہ وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرے گا (اس لیے کہ اس کے نزدیک تو جو کرنے کے کام ہیں وہ سب (گویا کہ فرض ہیں کیونکہ) عاشق کا مذہب یہ ہے کہ جو میرے رب کا حکم ہے وہ میں نے کرنا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے ان سب سے منع ہونا ہے (کیونکہ عاشق کے مذہب میں منع کردہ سارے کام اس گویا حرام ہی ہوتے ہیں) چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی کپڑوں کو آگ لگادیتی ہے۔ عاشقوں کے مقابلے میں استدلالیوں کا مذہب ہے۔ عاشق کے بارے میں یہ حدیث ہے:

الاثم ماحاک فی صدرک ۱ ”جو چیز تمہارے دل میں کھلنکے وہ گناہ ہے۔“

ظاہر ہے کہ جب دل صاف ہو گا تب ہی کھلنکے گا۔ وگرنہ جب خود دل میں ہی طرح طرح کے کھلنکے ہوں پھر خارجی کھلنکے کیسے محسوس کرو گے؟ کمزور عاشق مفتی سے مشتبہ چیزیں پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے یا نہیں؟ لیکن جب دل صاف ہو گا (اور بنا ہوا ہو گا تب ایسے کامل الایمان عاشق سے آپ ﷺ نے فرمایا:

استفت قلبک ”اپنے دل سے پوچھو۔“

دل کاٹھیک ہونا یہ ہے کہ وہ کرنے کی ساری چیزیں کرڈا لے اور نہ کرنے کی ساری نہ کرے۔

۱ رواہ کتاب المجموع ج ۹ ص ۱۰۷۔ کتاب البیوع فصل فی الورع الخ: (۲) اخر جهہ جلیلۃ

الولیاء ج ۹ ص ۳۲ و الحفاف ج ۱ ص ۱۲۰ و کنز العمال ج ۱۰ ص ۲۵۰

تینیسوں میں مجلس

اللہ کا قرب قربانی سے ملے گا

قربانی کیا ہے

اللہ تعالیٰ کا قرب قربانی سے ملتا ہے۔ قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قربان کر دے اور اللہ کا حکم پورا کرے جذبہ یہ ہے کہ لڑا جائے حکم ہے کہ نہ لڑو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ جذبہ قربان کیا گیا حکم پورا کیا اور لڑائی صلح میں بدل گئی صلح حدیبیہ اس کی بڑی مثال ہے (تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے اختصار ایہ ہے کہ) صحابہ کرام ﷺ آپ ﷺ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پر جس کا نام حدیبیہ ہے صحابہ ﷺ نے پڑا وڈا لا۔ دوسری طرف مکہ کے کفار نے مشورہ کیا اور صحابہ ﷺ کو عمرہ ادا نہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ (کفار کو خدشہ تھا کہ کہیں صحابہ کرام جہاد کی نیت سے نہ آئے ہوں اگرچہ صحابہ ﷺ نے ہر طرح یقین دہانی بھی کرادی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے ہی آئے ہیں مگر وہ پھر بھی نہ مانے آخر کار یہ طے ہوا کہ مسلمان کفار مکہ کے ساتھ ایک معاهدہ کریں گے جس کی روشنی میں چند شرائط ہوں گی اور انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام ﷺ اس سال واپس لوٹ جائیں بغیر عمرہ ادا کیے پھر آئندہ سال آکر عمرہ کر لیں یہ شرط بڑی مشکل تھی اس کے علاوہ بھی صلح کی دیگر شرائط بھی صحابہ ﷺ کے لیے تسلیم کرنا مشکل تھا اسی بناء پر صحابہ کرام ﷺ کی رائے بھی تھی کہ صلح نہیں کریں گے بلکہ جہاد ہی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ صلح کرو چنانچہ صحابہ نے اپنے شدید دلی جذبات کو رومند اور اللہ کے حکم کے مطابق صلح کر لی۔ شروع میں جذبہ یہ تھا کہ لڑیں گے لیکن حکم ہوا کہ نہ لڑو کفار سے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ جذبہ کچلا گیا اور

حکم کو پورا کیا۔ غزوہ بدر اس کی بڑی مثال ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر (تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے مختصر ایک کہ) صحابہ کرام صرف ابوسفیان کے قافلے کو روکنے جارہے تھے (کیوں کہ یہ تجارتی قافلہ کفار کی مدد و اعانت کے لیے تھا) جب صحابہ کرام کی جماعت جو کہ ۳۱۳ انفوس قدیسه پر مشتمل تھی مدینہ منورہ سے چل کر بدر کے مقام تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ راستہ بدل کر کسی اور راستے سے پہنچ چکا ہے دوسری طرف مکہ کے کفار کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ صحابہ قافلہ روکنا چاہتے ہیں اس لیے وہ ایک ہزار کا مسلح لشکر لے کر بدر آپنے۔ اب صورت حال بڑی عجیب ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام کی یہ مختصر سی مبارک جماعت تو صرف ایک قافلہ روکنے کی غرض سے یہاں تک آئی تھی اس لیے کوئی جنگی تیاری نہ تھی بس گفتگی کے دو چار ہتھیار ہی لے کر آئے تھے سواریوں کا بھی یہی حال تھا غرض یہ کہ صحابہ کرام کسی طرح بھی لڑائی کی پوزیشن میں نہ تھے جبکہ دوسری طرف سے چھری کانٹے سے لیس ایک ہزار افراد لشکر تھا۔ ظاہر ہے کہ بظاہر مقابلہ مشکل تھا۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کی (بانے خیرخواہی کے کہ کہیں یہ شریر لوگ ہماری جماعت کو نقصان نہ پہنچائیں) رائے دی کہ اس وقت نہ لڑا جائے لیکن حکم یہ تھا کہ اسی وقت اور اسی حال میں ہی لڑنا ہو گا چنانچہ صحابہ نے اپنے جذبے کو روند اور حکم پر عمل کرتے ہوئے میدان میں اترے، غزوہ بدر کے نام سے حق و باطل کا یہ پہلا باضابطہ مقابلہ تھا جس میں اللہ نے اپنے نام لینے والوں کی ایسی غیبی تائید و نصرت فرمائی کہ جس کا کھلی آنکھوں بھی مشاہدہ کیا گیا۔ اس غزوے میں اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی اور کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ تو بہر حال اللہ کا قرب قربانی سے ملے گا۔

☆ جذبات کی قربانی دینی ہے۔

☆ لذائذ کی قربانی دینی ہے۔

☆ شہوات کی قربانی دینی ہے۔

☆ مال کی قربانی دینی ہے۔

☆ جان کی قربانی دینی ہے۔

کم بولنا، کم کھانا، کم سونا یہ سب مجاہدے قربانیاں ہیں۔ الغرض یہ کہ ان قربانیوں سے اللہ کا قرب ملے گا۔

حقیقی آزادی

صحیح آزادی یہ ہے کہ انسان نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے نفس انسان کے قابو میں ہو، عقل رکام ہوا اور وحی کی روشنی میں اسے چلائے۔ تو اس صورت میں نفس غلام ہو گا جبکہ تم خود آزاد ہو گے ورنہ نفس آزاد ہو گا اور تم خود غلام ہو جاؤ گے۔

ایک سبق آموز واقعہ

واقعہ یہ ہے کہ کسی ریس آدمی کا ایک طوطا تھا جو کہ بولنا بھی جانتا تھا اور طرح طرح کی باتیں کر لیتا تھا۔ ریس بھی اس کا بڑا خیال رکھتا تھا کہ اس کے تمام مرغوبات اسے وافر مقدار میں لا کر دیتا تھا۔ وہ طوطا فضا میں اڑتے پرندوں اور دوسرے طوطوں کو دیکھتا تو اسے رشک بھی خوب آتا تھا لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہاں جو مراعات حاصل ہیں وہ پھر کہیں اور پہنچنیں کہ ہوں یا نہ ہوں۔ بہر حال دن گزرتے گئے، کچھ عرصے بعد اس ریس کو کسی تجارتی کام سے ہندوستان جانا تھا تو جانے سے پہلے اس نے اپنے سب گھروالوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کے لیے وہاں سے کیا کیا لاؤں خیر ہر ایک نے کوئی نہ کوئی فرماںش کی۔ پھر اس نے طوطے سے بھی پوچھا کہ (ہاں بھی) تمہارے لیے کیا لاؤں؟ طوطے نے اس سے کہا کہ مجھے تو کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے البتہ تم اتنا کرو کہ جب تمہیں کچھ طوطے مل جائیں تم ان کو پہلے تو میر اسلام کہہ دینا پھر ان سے کہنا کہ تمہارا ایک بھائی ہمارے گھر میں ہے۔ پھر وہ جواب دیں وہ آپ آ کر مجھے بتلائیں۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا سفر کر کے اس نے جس کی جو فرمائش تھی پوری کی پھر آخر میں وہ طوطوں

کے پاس بھی گیا اور انہیں اپنے طوٹے کا پیغام سنایا۔ طوٹے سارے درخت پر بیٹھے تھے پیغام سنتے ہی ان میں سے ایک طوٹا درخت سے مر کر نیچے آگرا۔ اسے بڑا صدمہ ہوا کہ یہ طوٹا پیچارہ مر گیا خیروہ واپس آیا۔ آکر اس نے طوٹے کو ساری صورت حال بتلادی طوٹاوہ واقعہ سنتے ہی گر پڑا وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرا بھی طوٹا مر گیا۔ خیر اس نے نکالا اٹا پلا کر دیکھا تو وہ مرا ہوا تھا اس نے اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنے کو فضائیں اچھا لاتو وہ پھر پھر اکر اڑنے لگا اور اڑتے اڑتے اس رئیس آدمی کے سامنے جو دیوار تھی اس پر آبیٹھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تو مر گیا تھا پھر ابھی اڑ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے چکر دے دیا ہے۔ تو اس نے طوٹے سے پوچھا کہ آخر تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ طوٹے نے اسے صورت حال بتلاتے ہوئے کہ کہ تیرے سامنے وہ جو طوٹا گرا تھا تو اس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو مار ڈالو پھر آزادی ملے گی۔ جب تک نفس کو نہ مارو گے تو قید ہی رہو گے اس نے اپنے عمل سے مجھے یہ سبق سکھلایا تھا اس لیے اس کی اس تعلیم سے مجھے حقیقی آزادی کا راز مل گیا تھا۔ اب میں فضاوں میں اڑتا پھر دوں گا یہ کہہ کر اس نے اس شخص کو بھی نصیحت کی کہ میرے دوست تم بھی نفس کے پنجرے میں پھر پھر اڑ رہے ہو اور قیدی ہو اگر چاہتے ہو کہ آزادی ملے اور جنت کے باغات میں سیر کرو اور دنیا میں روحانی پروازیں ہوں۔ تو اپنے نفس سے آزاد ہو جاؤ۔ خواہشات کی بجائے احکامات پر چلنے کی زندگی اختیار کرو۔ وہ طوٹا اڑا اور اڑتے اڑتے ان آدمی کی نظروں سے او جھل ہو گیا۔

اس لیے یاد رکھیں کہ نفس کو مار کر پابند کرنے سے آزادی ملے گی۔ اگر نفس پابند ہو جائے تو یہ بہت کمال کی چیز ہے، اگر بہت بگڑا اور مضبوط نفس ہو تو قابو ہو جانے کے بعد اتنا ہی وہ کام کا بھی ہوتا ہے۔ بکری کو قابو کرو۔ وہ کتنا بوجھا اٹھائے گی اور ہاتھی کو قابو کیا تو وہ کتنا بوجھا اٹھائے گا۔

ہر کام اشہاک سے کریں

دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر کام اشہاک سے کریں، اشہاک کے ساتھ کام کرنے کے مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ انسانی نفس رسم و رواج کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر نفس رواجی ذہن سے باہر نہیں آتا۔ یاد رکھیں کہ جو بھی اشہاک سے کام کرے گا قدرت اس کی مددگار ہوگی۔ کام کرنے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تُبَدِّلْ هُوَلَا، وَهُوَلَا،

”ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی“

اس لیے آپ نفس کو پابند کریں اور ہر اور بھاگنے نہ دیں۔ اس پر صبر کریں۔ دوسرا یہ کہ رسم و رواج سے باہر آ جائیں اور نفس کو ہر کام پر اشہاک کے ساتھ جمانے کی عادت اپناویں۔

چوبیسوں میں مجلس ہدیہ سے متعلق چند ضروری باتیں

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

تمہاروں تھابوں!

”آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو تمہاری بائیسی محبت برداشتے گی۔“

☆ جو ہدیہ دے تم بھی اسے کچھ دو۔

☆ ہدیہ وہ شخص قبول کرے جو دینے والے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ سمجھے، اگر وہ دینے والے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ نہیں سمجھے گا تو وہ مخلوق سے طمع کرے گا، اور مخلوق کا غلام ہو جائے گا اور یہ بات سالک کے لیے نقصان دہ ہے۔

☆ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو بظاہر ہدیہ دینے کا ارادہ کر رہا ہو تو اس وقت وہ لینے سے انکار نہ کرے جب تک صورت حال واضح نہ ہو جائے اور نہ کوئی تیرا آدمی اس کو پیشگی روکنے کی کوشش کرے۔ (اس میں بڑی حکمتیں ہیں ایک یہ کہ) کیا معلوم کہ اس نے ویسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوں۔ کوئی اور چیز نکال رہا ہو، پھر اس کو یا آپ کو شرمندگی ہوگی۔

ایک واقعہ

کہیں کوئی پیر صاحب تھے ساتھ ان کے ایک مرید بھی تھے ایک تیرے صاحب نے پیر صاحب کے پاس آ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے (شاید ان پیر صاحب کا معمول ہدیہ نہ لینے کا تھا اس لیے) اس مرید نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ہدیہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ

آدمی کہنے لگا کہ میں تو ہدیہ نہیں بلکہ اپنا ایک خط انہیں دینا چاہتا ہوں۔

☆ ہمارے دادا جی کے پاس ایک آدمی ہدیہ دینے آتا تھا تو دادا جی ان کے ہدیہ میں دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ اپنی طرف سے اور پیسے ملا کر دے دیا کرتے تھے۔

☆ ہدیہ دینے وقت نیت خالص اللہ کی رضا کی رکھنی چاہتے ہے۔

بعض ہدیے رشوت ہوتے ہیں

☆ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہدیہ نہیں لیا کرتے تھے بلکہ سختی سے واپس کر دیا کرتے تھے (چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) تھے، تو ایسے موقع پر ہدایا اکثر رشوت ہوا کرتی ہیں۔

☆ بعض ہدایا رشوت ہوتی ہیں۔

ایک میرے رشتے دار کے دوست تھے وہ ان کے پاس آئے اور میرے ساتھ کوئی کام تھا اس نے بات کرنے سے پہلے پیشگی مجھے دوسرو پے دیے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے میں نے منع کر دیا۔ اس نے اصرار بھی کیا مگر میں نے قبول نہیں کیے۔ میرے رشتے دار کے دوست کے ایک اور بھائی تھے ان کا مجھ سے تعلق تھا۔ خیر میں نے جب دوسرو پے کا ان کو منع کیا۔ تو وہ بعد میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میرے بھائی سے کہیں کہ وہ اپنی زمین میرے نام پر کروادیں۔ میں نے کہا یہ تو مناسب نہیں ہے وہ کہنے لگا کہ آپ سفارش کر دیں بہر حال میں نے مغدرت کر دی۔ تو کیا وہ ہدیہ تھا؟ وہ دراصل ہدیہ نہیں بلکہ رشوت تھی۔

☆ رشوت کے لوگوں نے عجیب عجیب نام رکھے ہیں۔ پولیس والے چائے پانی کہتے ہیں۔ باقی بظاہر دیندار لوگ نذرانہ کہتے ہیں (بعض اچھے لوگ بھی مریدوں سے طمع کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہتے) اس سے زیادہ ذلیل اور کون ہو گا جو دین کو فروخت کر دے۔

ایک پیر کے مرید کا عجیب خواب

کسی پیر کے ایک مرید نے خواب دیکھا خیر خواب بڑا عجیب تھا۔ بہر حال مرید صاحب نے آکر پیر صاحب کو خواب کا بتایا ساتھ سنادیں کی اجازت بھی مانگی، پیر صاحب نے اجازت دے دی۔ مرید کہنے لگا حضرت رات کو بندہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کو شہد لگا ہوا ہے اور میں اسے کھا رہا ہوں پیر صاحب بڑے خوش ہو کر کہنے لگے یہ تو میری کرامت ہے مرید نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت آدھا خواب باقی ہے۔ پیر نے کہا وہ بھی سنادو۔ مرید کہنے لگا کہ حضرت میری انگلیوں پر انسانی پا خانہ لگا ہوا ہے اور آپ اسے چاٹ رہے ہیں۔

بہر حال پیر صاحب سخت خفا ہوئے کہ نالائق میری توہین کر رہا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے اگر حقیقت ہو تو اس خواب کی بڑی جامع تعبیر بھی ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ مرید پیر کی انگلیوں سے شہد کھا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرید سچا تھا اور اللہ تعالیٰ کا طالب تھا۔ جبکہ پیر ان کی انگلیوں سے پا خانہ کھا رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مرید سے دنیا کا طالب تھا۔ بہر حال ہر وقت اللہ ہی سے طمع کر رہا تھا اسی سے امید رکھیں مخلوق سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں جس کی دل کی آنکھیں خدا کو پالیتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں نوازتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ خود کو ایسا بنائیں کہ آپ دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کر لیں۔

پچھیوں میں حلال کبھی بھی نہ چھوڑیں

ایک شیطانی فریب

آپ حسب ضرورت حلال کمائی کی کوشش کریں اور حلال کسب کبھی بھی نہ چھوڑیں۔
شیطان بڑا منصوبہ ساز ہے وہ تمہیں دینداری کے عنوان سے (بھی) گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس نورانی حجابات بھی ہیں وہ تمہیں اس حجاب سے مارے گا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ حلال روزی کمانا ایک فرض ہے، دوسرے فرائض کے بعد اسی کا نمبر ہے اس لیے آپ کبھی بھی اسے نہ چھوڑیں۔ آپ کی کسی مدرسے میں تدریس ہے، یا امامت ہے یا آپ پڑھاتے ہیں یا کوئی نوکری ہے تو شیطان (تمہاری راہ مارنے کے لیے پہلے) توکل کے نام سے اس شغل سے ہٹائے گا۔ شیطان آپ سے کہے گا کہ توکل بڑی چیز ہے اس لیے توکل ہی کو اختیار کر لینا چاہئے باقی یہ سارے وحندے ہیں بس کہیں کسی مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرتے رہا کرو۔

ناقص توکل کے نقصانات

(اگر آپ شیطانی فریب کا شکار ہو گئے اور آپ نے کمانے کا سلسلہ ختم کر لیا تو شروع شروع میں آپ بڑے خوش ہوں گے آپ سمجھیں گے کہ بس ابھی میں اللہ والا ہو گیا) اب آپ کہیں گے کہ میں نے دنیا کو لات مار دی۔ اب میں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں!! کہ اس سے آپ کا توکل تام نہیں ہو گا۔ بظاہر یہ توکل نظر آئے گا لیکن درحقیقت توکل نہ ہو گا۔ اب اس توکل سے کیا ہو گا یہ ہو گا کہ شروع شروع میں آپ اپنی جمع پونجی سے کام چلاتے رہیں گے۔ یہ

پونجی چلتی رہے گی اور آپ یہی سمجھیں گے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔ پھر کیا ہو گا کہ آپ کی جمع پونجی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو شیطان آپ کے دوستوں کا خیال دلائے گا۔ کہ فلاں دوست بہت اچھا ہے اور فلاں تو اور بھی اچھا ہے۔ الغرض یہ کہ آپ لوگوں کے ہدایا پر انحصار کریں گے جب ہڈیہ کی عادت رکھنے ہو گی تو پھر آپ کی نظر آہستہ آہستہ لوگوں کے جیبوں کی طرف جائے گی پھر یہ ہو گا (کہ آپ بری طرح طمع کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے) کہ کوئی ذرا اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھائے گا آپ بس انتظار شروع کر دیں گے کہ مال آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں (اور موازنہ کریں) کہ شیطان نے (توکل کے خوش نما عنوان سے) آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ ایک اچھے آدمی تھے، آپ کے دل میں کسی سے طمع نہ تھی اور آپ کی نظر کسی کی جیب پر بھی نہ تھی۔ بلکہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا۔ شیطان نے اللہ کی ذات سے آپ کا اعتقاد ختم کر کے مخلوق کے رحم و کرم پر آپ کو لا کر چھوڑ دیا۔ (بھلا یہ بھی کوئی توکل ہوا)

شیطان شروع شروع میں تمہارے لیے بڑے دلائل پیش کرے گا کہ اس میں یہ یہ فائدے ہیں اس لیے آپ شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ (یاد رکھیں) توکل کا ایک اعلیٰ مقام اور درجہ ہوتا ہے جب تک آپ اس مقام پر نہ ہوں اس وقت تک حلال کسب کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ بہت سارے لوگوں کو شیطان اس راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔

نفس اور شیطان تمہیں باریک راستوں سے گمراہ کرے گا اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن و سنت کی رسی ہو۔ اس کی برکت سے آپ پر شیطان کا اسلط نہ ہو گا۔ اگر قرآن و سنت کی رسی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر شیطان مختلف حیلوں بہانوں سے آپ کو گمراہ کرے گا۔

ایک سبق آموز واقعہ

یہاں کربو غد میں ایک آدمی تھا، وہ شکاری تھا اس سے گزر بسر چلتا تھا۔ ایک دن مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ مفتی صاحب بس آج سے میں تمام کاموں اور شکار کو چھوڑ کر توکل اختیار

کر لیتا ہوں۔ مجھے ان کے حال پر رحم آیا اس لیے میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ مصرر ہے کہ بس میں اب توکل ہی کروں گا۔ بہر حال اس نے تمام کاموں اور شکار کو خیر باد کہہ دیا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا رہتا ہے کہ شروع میں کچھ جمع پوچھی تھی اسی پر انحصار رہا اور دل میں یہ خوشی رہی کہ توکل بڑھ رہا ہے پھر کچھ عرصہ بعد جب تنگی ہونے لگی تب وہ پریشان ہونے لگا کچھ دن اسی پریشانی میں گزرے پھر جب مجبوری حد سے تجاوز کر گئی تب ایک دن پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا: کہ خواب میں، میں نے تیز دیکھے، میں نے ان کو اتنا کہہ دیا جو کار و بار آپ کرنا چاہ رہے ہیں شروع کریں اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو پھر شکار اور کار و بار کا شوق ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آیا اور کہنے لگا مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کار و بار اور شکار کے بارے میں، جائز ہے کہ آدمی کار و بار اور شکار کرے یا ناجائز؟ میں نوعیت سمجھ چکا تھا اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ہاں جائز ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہ توکل ہے۔ آپ ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلیں۔

چھپیسوں میں مجلس

اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے

ایک سبق آموز واقعہ

مولانا نارومی رحمۃ اللہ علیہ نے (مشوی شریف میں) ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک علاقے میں چوریاں ہونے لگیں اور سخت قسم کی چوریاں تھیں بالآخر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عامیانہ لباس پہن کر رات کو رعایا کی خبر گیری کے لیے چل نکلے، اور حالت چوروں جیسی بنائی چلتے چلتے ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ پانچ آدمی بیٹھے آپس میں با تین کر رہے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس وقت اتنی رات گئے یہ لوگ یہاں کیا با تین کر رہے ہیں۔ خیر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ پانچ آدمی تھے چور، اور کہیں چوری کرنے کا منصوبہ بنارہے تھے۔ محمود غزنوی چونکہ عامیانہ لباس میں ملبوس تھا اس لیے انہوں نے پوچھا نہیں بلکہ یہ خیال کیا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا کوئی چور ہے۔ (آدمی جیسا خود ہوتا ہے اور دل پرویا ہی گمان کرتا ہے) انہوں نے اس کو پر کھنے کے لئے یہ نیا چور بھی کوئی فن جانتا ہے یا خواہ مخواہ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اس لئے ان پانچوں میں سے ایک نے باقیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہم چھ ساتھیوں میں سے کس کو کیا فن آتا ہے اور کس میں کیا کمال ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک آدمی سے پوچھا: ہاں بھی؟ تمہیں کیا فن آتا ہے اور کیا کمال ہے تمہارے اندر؟ اس نے کہا کہ کوئی خاص کمال تو مجھے نہیں آتا، البتہ اتنا ہے کہ جب کتے بھونکتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کتے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کمال سنتے ہی وہ باقی پانچوں کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کمال ہے تمہارے اندر اور رات کو عموماً کتے بھونکتے ہی ہیں اس لیے سمجھنا بھی

ضروری ہے اس لیے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس پوچھنے والے نے ایک دوسرے چور کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں کیافن آتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زمین کے جس حصے میں سونا اور خزانہ فن ہو میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں ہے یا نہیں؟ یہ کمال سننا تھا کہ سب عش عش کرنے لگے کہ واہ بھی واہ۔ یہ کمال تو چوری میں بہت ہی مفید ہے۔ آپ بہت باکمال ہیں۔ پوچھنے والے نے تیرے سے یہی سوال کیا کہ جی تمہیں کیا کمال آتا ہے؟ اس نے کہا کہ اوپھی سے اوپھی عمارت میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، بڑی سہولت سے میں بڑی بڑی عمارتوں پر کمند ڈال سکتا ہوں۔ باقیوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ پھر اس پوچھنے والے نے چوتھے چور کا کمال پوچھا: چوتھا چور کہنے لگا کہ میں مضبوط سے مضبوط عمارت میں نقب لگا سکتا ہوں۔ اس کی بھی خوب تعریف ہوئی۔ پھر پانچویں کا کمال پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے اندر یہ کمال ہے کہ انتہائی تاریک رات میں بھی اگر کسی شخص کو ایک نظر دیکھ لوں تو صبح اسے پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی ہے۔ اس کی بھی تعریف کی گئی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حیران بیٹھے یہ کمالات سننے رہے سب کے کمالات سن کر اسے بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ یہ بہت بڑے بڑے چور ہیں یہی وہ چور ہیں جو ملک میں گڑ بڑ کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں۔ اخیر میں پوچھنے والے نے ان سے بھی یہی سوال کر دیا کہ جی آپ کو کیا کمال آتا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے۔ مجھے یہ کمال آتا ہے کہ اگر تم لوگ کہیں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے میرے سر ہلانے میں یہ کمال ہے اگر تم پھانسی بھی لگ جاؤ تو میرے سر ہلانے سے تمہیں پھانسی کی سزا سے نجات مل جائے گی۔ وہ پارچ چور یہ کمال سن کر انتہائی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ سب سے بڑا کمال تمہارا ہے کیوں کہ ہمارے کمالات سے چوری تو ہو سکتی تھی لیکن ان کمالات میں نجات پانے کا کوئی کمال نہیں تھا یہ ہمارے اندر بڑی کمی تھی جو کہ آپ کے آنے سے پوری ہو گئی اب تو آپ ہمارے قطب اور بادشاہ ہیں گے کیونکہ آپ کی خوبی ہم سب کی خوبیوں سے بڑھ کر ہے۔

ایک دوسرے کمالات سننے کے بعد اب یہ مشورہ شروع ہوا کہ پھر آج کی رات چوری کس

جگہ کی جانی چاہئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا: میری رائے یہ ہے کہ آج ہم کیوں نہ بادشاہی کے گھر میں چوری کر لیں۔ کیوں کہ اگر کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی دولت ہاتھ آجائے گی اور اگر ناکام ہوئے اور گرفتار ہو گئے تب پھر کیا غم کیوں چھڑانے والا تو ساتھ ہی ہے۔ سب نے اسی بات کو پسند کر لیا اور پھر وہ بادشاہ کے محل کی طرف چلنے لگے۔

جب ہوس آتی ہے تو حقیقت چھپ جاتی ہے

جب یہ سب لوگ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا اور پھر مسلسل بھونکتے ہی رہے۔ ان میں سے جس نے بتایا تھا کہ میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں تو سب نے اس سے پوچھا کہ سنو! کتنے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بڑی خطرناک بات ہے سمجھنیں آتا کہ بتا دوں یا نہیں؟ ان لوگوں کا تجسس بڑھا کہنے لگے جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا کتنے یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ آ رہے ہیں۔

چونکہ ان لوگوں پر ہوس چھائی ہوئی تھی کہ بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے سے بہت بڑا مال ہاتھ آنے کی امید تھی اس لیے ان پر یہ حقیقت اور اس کی تاویل انہوں نے یہ کی کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم نے خود اسے امیر اور بادشاہ تسلیم کیا ہے۔ بادشاہ کے محل پہنچ کر سو گھنٹے والے نے سو گھنٹا شروع کیا جہاں خزانہ تھا اس نے اس کی نشاندہی کی۔ پھر جو مکندڈ الناجانتا تھا اس نے واقعی بڑی پھرتی سے مکندڈاں دی۔ چڑھنے والے اس کے اوپر چڑھے۔ عمارت میں نقب والے سے نقاب لگوائی اور پھر سارا سونا خزانے سے باہر چوروں کے ہاتھ آ چکا تھا۔ محل سے باہر آ کر سونا تقسیم کیا گیا اور ایک دوسرے سے اجازت چاہئے لگے۔ محمود غزنوی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

ساتھیو! اگلی رات کہاں اکھٹے ہونا ہے تاکہ ہم سب پہنچ سکیں دوسرائیہ کہ سب ایک دوسرے کو اپنے گھر کا پتہ بتلاؤیں تاکہ ضرورت پڑی تو پھر کوئی مشکل نہ ہو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور سب کے گھروں کے پتے لیے اور دیے گئے۔ سارے پتے لے کر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

واپس محل میں آپنچھے اور ان کی گرفتاری کے لئے فوراً اسی وقت فوجی لشکر کے پانچ چھوٹے چھوٹے دستے بنائے گئے اور ان پانچ مقامات کی طرف روانہ کردیے گئے اور وہ گھوڑے سوار ہر ایک چور کے دروازے پر ان سے پہلے پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پانچوں لٹی دولت سمیت شاہی دربار میں بادشاہ کے حضور پیش کیے گئے۔ صبح کے وقت جب محمود غزنوی شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ تخت شاہی پر سرتاپاؤں غصے سے بچھرے ہوئے شیر کی طرح بیٹھے تھے، شاہی دربار میں بادشاہ کے غیظ و غضب کے سامنے سب درباری مارے خوف و ہیبت کے بت بنتے بیٹھے تھے، دربار میں نمائے کا عالم تھا اور سب پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ کہ اسی اتنا فوجی جوانوں کا ایک دستہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگا: پانچوں چور گرفتار ہو چکے ہیں اور حاضر خدمت ہیں پھر اس کے ساتھ ہی ان پانچوں کو بادشاہ کے سامنے لاکھڑا کر دیا گیا۔ شاہی رعب و بدے سے ان پانچوں کے دل پھٹے جا رہے تھے اور پاؤں تھر تھر کا اپ رہے تھے۔ چھروں پر ہوا یاں اڑی ہوتی تھی۔ جلا دیکی برهنہ چمکتی تو اران کے سروں پر لٹکی ہوتی تھی موت ان کے سروں پر منڈلار ہی تھی۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ کانوں تو بدن میں لہو کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔

ایک دیوبینکل جلا دنگلی تکوار سونتے حکم شاہی کا منتظر تھا کہ ادھر سے اشارہ ہوتے ہی ادھر پانچوں کے سر قلم ہوں۔ حالت تو ان پانچوں کی بہت خراب ہو رہی تھی لیکن ان میں وہ شخص کہ جس نے کہا تھا کہ میں رات میں جسے دیکھ لیوں صبح اسے پہچان جاتا ہوں، اس ایک کی حالت مختلف تھی وہ کبھی تو اپنے اور ساتھیوں سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ بادشاہ ہمارے کرتوں سے واقف ہے اور کبھی امید کی کرن اس کے دل میں پیدا ہوتی تھی کہ شاید بادشاہ سر ہلاکر ہمیں معاف کر دے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جلا دکو حکم دینے ہی والے تھے اور وقت قریب ہو گیا۔ اطمینان کے آثار دیکھنے تو ان سے پوچھا تو وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک عرض ہے اگر اجازت ہو تو پیش کر دوں؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ وہ کہنے لگا: کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے جس کمال کا اظہار کیا تھا اس نے اس کمال کا مظاہرہ بھی کر دیا ہے اور ہر

ایک اپنے اس کمال میں سچا ہے۔ صرف ایک کے کمال کا مظاہرہ باقی ہے اس کو چاہئے کہ وہ اپنے کمال کا مظاہرہ کرے۔

سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکرا نے لگا، پھر ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: تم سب کی معافی کی صرف ایک ہی صورت ہے وہ یہ ہے کہ تم سب صدقی دل سے توبہ کرو۔ وہ سب کہنے لگے۔ کہ ہم نے گرفتار ہوتے ہی پچی پچی توبہ کر لی تھی۔ اب دوبارہ آپ کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ سلطان کو جب ان کے توبہ کا یقین ہو چلا کہ واقعی ان کی توبہ پچی ہے تو سلطان نے اپنی داڑھی سے اشارہ کیا جس کی مرکت سے وہ سب رہا کر دیے گئے۔^۱

واقعہ سے ماخوذ سبق

اس واقعے سے ماخوذ سبق یہ ہے:

☆ دنیا میں ہر وقت، ہر گھری اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ (بادشاہوں کے بادشاہ) ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہماری ہر حرکت اور ہر سکون پر باخبر گواہ ہے۔

☆ دنیا میں ہی اللہ کی معرفت حاصل کر لی جائے تو یہ معرفت آخرت میں کام آئے گی۔ جس کا دل اس دنیا میں اس دنیا میں پینا ہوا جس نے اپنے رب کو پہچانا ہو گا کل قیامت میں وہ اپنے رب کو دیکھ سکے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔

ستائیسویں مجلس

اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو اپنا مقصوداً صلی بنائیں

ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا دلچسپ قصہ

آج ایک اور واقعہ سناؤں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر بھی تھا۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا کہ مجھے آپ سے تین سوال کرنے ہیں، ان تین سوالات کے لیے تین دن کی مهلت دے دیتا ہوں اگر آپ نے ان تین دنوں میں جوابات ٹھیک ٹھیک بتا دیے تو پھر تو اعزاز و اکرام سے نوازوں گا۔ لیکن اگر تین دن میں آپ سے ان سوالوں کے جوابات نہ بن پڑے تو تمہیں قتل کروادوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے وہ تین سوال بتائے جن میں۔

(۱) پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جسے ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔

(۲) دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جسے ساری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں۔

(۳) تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے لوگ جھکلتے ہیں چاہے وہ بادشاہ یا وزیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت غرض کوئی بھی ہو وہ اس چیز کے سامنے جھکتا ہے تو ایسی کیا چیز ہے۔

وزیر ان سوالوں اور تین دن کی مهلت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف انتہائی پریشانی کے عالم میں روئے ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے سوال نمبر ایک کو لیا پہلے سوال دھرا یا پھر جواب سوچنا شروع کیا، وہ سوچنے لگا کہ وہ کیا چیز ہے جسے ساری دنیا کے سب لوگ مانتے ہوں۔ سوچنے سوچنے ذہن میں جواب آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں کچھ خوشی بھی ہوئی کہ ایک سوال تو حل ہو چلا، لیکن

پھر خیال آیا کہ کمجنگت و ہر یہ اللہ تعالیٰ کے متنکر ہیں تو یہ جواب تو ٹھیک نہ ہوا اس لیے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ سب لوگ اسے مانتے ہوں اب اگر میں کہوں کہ اس سوال کا جواب اللہ ہے تو بادشاہ کہے گا کہ دہریہ تو اللہ کو نہیں مانتے، تب پھر میں کیا کروں گا۔ غرض یہ کہ وزیر اس سوال کا دوسرا جواب تلاش کرنا شروع کیا۔ سوچتے سوچتے خیال آیا کہ ہونہ ہواں کا جواب رسول ہے کیونکہ رسول کو سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ نہیں بہت سارے بد قسم و بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو رسول کو بھی نہیں مانتے تو جواب یہ بھی نہ ہوا۔ پھر اس نے دماغ پر زورڈا لالا اور نئے سرے سے سوال نمبر اکا جواب تلاش کرنا شروع کیا ہر چند کوشش کی گئرنا کامی ہی کا سامنا رہا۔ مجبور ہو کر وزیر نے یہ سوال ایک طرف کیا اور دوسرے سوال کا جواب سوچنا شروع کیا سوال تھا کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جسے ساری دنیا والے سچ سمجھتے ہیں، کافی غور خوض ہوا، سوچ و بچار ہوئی لیکن اس سوال کا بھی کوئی معقول جواب نہ بن پڑا۔ اس سوال کے جواب سے بھی مایوس ہو کر وزیر نے تیسرے سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا۔ سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے سب لوگ مجھکتے ہیں۔ سوچتے سوچتے دماغ میں دردائھنے لگا لیکن جواب کوئی نہیں۔ پہلا دن مکمل ضائع ہوا۔ مہلت کے صرف دو دن جبکہ سوالات پورے تین کے تین جوں کے توں لا جواب باقی تھے۔

دوسرے دن پڑھے لکھے اور سمجھدار اور بلا کی ذہانت رکھنے والے افراد کی طرف رجوع کیا گیا سوالات انہیں بتائے گئے، غور و فکر شروع ہوئی اور جوابات سوچے جانے لگے دن ختم ہوا لیکن نتیجہ صفر ہی رہا کسی سوال کا کوئی بھی معقول جواب نہ بن سکا۔ اگلا دن آخری تھا۔ اور بس مہلت ختم ہو جانی تھی مہلت کے خاتمے کے ساتھ ہی وزیر کا بھی خاتمہ ہو جانا تھا۔ تیسرے دن وہ کھیتوں میں سرگردان پھر رہا تھا کہ موت میرے سر پر کھڑی ہے اور کل میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک بوڑھے کسان پر سے ہوا جو اللہ والا آدمی تھا اللہ والے حلال کسب کرنے والوں میں ملتے ہیں وہ مل چلا رہا تھا۔ اس نے وزیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیوں پریشان ہو

آئیں اپنا بوجھہ ہلاکا کریں۔ آدمی جب اپنا غم اور پریشانی کسی دوسرے کا بتاتا ہے اور وہ اس کو تسلی دیتا ہے تو اس کا غم اور پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک پگڈٹھی پر بیٹھ گئے بوڑھے نے پوچھا آپ کو کیا ہوا۔ وزیر کہنے لگا کہ یہ بڑی درد بھری داستان ہے وزیر نے ان تین سوالات کا قصہ اس کسان کو بھی سنادیا۔ کسان سوالات سن کر چونک اٹھا اور کہنے لگا ارے بھی وزیر اتنے آسان سوالات بھی تم سے حل نہ ہوئے کمال کی بات ہے؟ یہ تو میں ابھی اور اسی وقت بتا دوں؟

یہ کہتے ہی اس نے جوابات بتانا شروع کیے کہ پہلے سوال کا جواب موت ہے کیوں کہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے ہی کر سکتا ہے۔ وزیر نے سوچا تو جواب واقعی یہی تھا۔ پھر کسان کہنے لگا کہ دوسرے سوال کا جواب یہ دولت جا گیر، زمین اور اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ہیں اور اس بات کو سب لوگ سچ بھی سمجھتے ہیں جبکہ یہ ہے جھوٹ۔ کیونکہ یہ ساری جا گیریں ہماری نہیں ہیں بلکہ ہم سے پہلے کسی اور کی تھی اور ہمارے بعد بھی کسی اور کی تھی ہوں گی۔ وزیر نے سوچا تو یہ جواب بھی ٹھیک تھا۔ اب تو وزیر اس کسان کاحد درجے معتقد ہو گیا اور بے تابی سے تیرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کسان نے کہا پہلے کھانا کھاتے ہیں کھانا تیار ہے وزیر نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا تھا بڑے مزے لے کر کھانا کھایا اور مطمئن تھا کہ تیرے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ کھانے کے بعد کسان نے کچھ لسی بچائی تھی اور کسان کے ساتھ ایک شکاری کتا بھی تھا جو انہوں نے ایک درخت کے سایہ میں پاندھا تھا کھانا کھانے کے بعد وزیر نے تیرے سوال کا جواب پوچھا۔ لیکن کسان نے کہا تیرے جواب بتانے سے پہلے آپ سے میری ایک شرط ہے کہ وہ آپ پوری کریں گے۔ وزیر خوشی خوشی آمادہ ہو گیا کیونکہ اسے تو ہر حال اور ہر قیمت پر جواب چاہئے تھا۔ ایک شرط کیا وہ کئی ہزار شرطوں کے لیے تیار تھا۔ بہر حال کسان نے ایک بڑا کٹورالیا اس میں روٹی کے ٹکڑے کیے اور پچھی ہوئی لسی ڈالی اس روٹی کو زم کیا پھر یہ کٹورا لے جا کر اپنے کتے کے سامنے رکھ دیا اور آکر وزیر سے کہنے لگا کہ میری شرط یہ ہے کہ آج آپ میرے اس کتے کے ساتھ کھانا کھائیں گے وزیر نے اس

کسان کی بڑی منتظری کی کہ یہ شرط نہ رکھیں یہ بڑی مشکل شرط ہے۔ لیکن وہ بھی کوئی کچا آدمی نہ تھا ایک ذرا بھی شس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر جب وزیر نے بھانپ لیا کہ کسان کسی صورت بھی شرط چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو گا چونکہ جواب تو اسے ہر حال میں چاہئے تھا، مجبور ہو کروہ اٹھا اور کتنے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اسی کثوارے میں اس کتنے کے ساتھ زم روٹی کھانے کے لئے جھک گیا۔ جوں ہی وہ جھکا لقہ اٹھایا تو کسان نے لپک کر اس کا سر اور گردن پکڑی انہیں اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا آپ نے ہماری شرط پوری کر لی بس اب جواب سنو! تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی مقصد کے سامنے جھک جاتا ہے جیسے ابھی آپ جھکتے تھے۔ چونکہ تیرے سوال کا جواب آپ کو ہر حال میں مطلوب تھا اور وہ جواب آپ کا مقصد ہیں چکا تھا اس لیے آپ میری اس گھٹیا شرط کو بھی مانتے کے لیے تیار ہو گئے۔ وزیر اس کسان کی فراست اور ذہانت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، وزیر خوشی خوشی گھرواپس آیا مہلت ختم ہو گئی تھی اور بادشاہ انتظار میں تھا کہ اتنے میں وزیر داخل ہوا وزیر کے آتے ہی بادشاہ نے جوابات پوچھنے جو وزیر نے ایک ہی سانس میں سنا دالے۔ بادشاہ نے حسب وعدہ وزیر کا اعزاز واکرام کیا۔

واقعہ سے حاصل شدہ سبق

اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد و مطلب اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو بنالیں تو پھر ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہ ہو گا، نہ تلاوت مشکل ہو گی نہ نماز نہ ہی روزہ اور نہ ہی دیگر عبادات۔ آپ دیکھیں کہ زمیندار کھیت کو مقصد بناتا ہے تو پھر اس کھیت کے لئے زمیندار کورات تین بجے جا گنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سلمان خیل (پشاور کے مضامات میں واقع ایک گاؤں کا نام ہے) میں، میں نے خود دیکھا کہ رات تین بجے ایک آدمی زمین میں کام کر رہا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے کاموں میں ریا کاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ کام کرے گا۔ اس لیے ہم بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کے

حصول میں لگئے ہیں کوئی دیکھنے یا نہ دیکھنے بس ہم اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لئے کام کرتے رہیں۔

دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ نما مثال

فرمایا انسان کی فطرت ہے کہ نقد کو زیادہ پسند کرتا ہے بحسب ادھار کے۔ اب دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے۔ آپ دنیا کی محبت سے بچیں۔ دنیا کی محبت سے بچنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کمانا ہی چھوڑ دیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو نہ چھوڑ دیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، انتہائی نیک اور انتہائی خوش اخلاق تھا، چونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا اس لیے بادشاہ کو اس سے حد درجہ محبت تھی۔ جب وہ شہزادہ جوان ہوا تو اس بادشاہ نے اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع کی الغرض یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ایک انتہائی نیک اور حسین و جمیل لڑکی سے شہزادہ کا رشتہ طے ہوا پھر شاہی دھoom دھام کے ساتھ اس شہزادے کی شادی ہوئی۔ زندگی یونہی چلتی رہی یہاں تک کہ شہزادہ کی شادی کو ایک سال تکمیل ہوا۔ ایک دن ملکہ نے اپنی بہو سے باتوں باتوں میں یہ پوچھا کہ کیا ہم پوتے یا پھر پوتی کی امید رکھیں..... بادشاہ کی بات کا سنتا تھا کہ وہ شہزادی زار و قطار رونے لگی۔ ملکہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ میری بہو کس بات پر روئی ہے۔ پھر اس نے قصہ پوچھا تو بہونے اسے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں نے قریب سے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ملکہ بڑی پریشان ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اس نے جلدی جلدی بادشاہ کو اس بات کی اطلاع کر دی اور ساتھ ہی تاکید کی کہ جلد سے جلد صورت حال معلوم کر لی جائے۔ بادشاہ کو بھی بہت بڑا صدمہ ہوا کہ شہزادہ سے انہیں یہ توقع تو نہ تھی؟ یہ آخر اس نے کیا کیا اور ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے فوراً وزیر کو آدمی بھیج کر بلوایا۔ وزیر کو واقعہ سننا کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے جلد از جلد صورت حال بتلادی جائے وزیر نے حامی بھری اور صورت حال جاننے کے لیے چل پڑا۔ تفتیش کرتے

کرتے وزیر کو یہ بات معلوم ہوتی کہ شاہی محل سے کچھ دور ایک مکان میں ایک بڑھیار ہتی ہے جو کہ بڑی مکارہ ہے اس نے شہزادے پر جادو کر لیا ہے جس کی وجہ سے شہزادہ اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ اور شہزادے نے بغیر کسی کو بتائے ہوئے اس سے شادی بھی کر لی ہے۔ اس لیے شہزادہ بجائے اپنے گھر کے چھپ چھپا کر وہیں جاتا ہے پھر صبح اپنے گھر آتا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو آکر ساری صورت حال سے آگاہ کیا بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ وزیر نے کہا کہ اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ کسی طرح جادو کو ختم کروادیا جائے بادشاہ کو یہ رائے پسند آئی چنانچہ فوراً جادو ختم کرنے والے عامل بلائے گئے اور پھر ان کے ذریعے شہزادہ کا جادو ختم کروایا گیا جادو ختم ہوتے ہی شہزادے کی تو جیسی آنکھیں کھل گئیں ہوں اس نے ایک نظر اس بڑھیا پر ڈالی تو اس سے شہزادے کو گھن آنے لگی کہ یہ کیا مصیبت ہے اور میں اس پر کیسے کسی آدمی کی آنکھیں بالکل بند ہوں اور ناک بھی بند ہو وہ آدمی اسی حال میں ڈھیر سارے پامخانے کے پیچوں نیچ لیٹا ہوا ہو۔ تو چونکہ اس پر حقیقت پوشیدہ ہے اس لیے وہ بڑے سکون سے ہو گا چونکہ پامخانہ بھی نرم ہوتا ہے اس لیے اسے یہ زمی بڑی بھلی معلوم ہو گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں گلقتند یا حلوے کے اوپر لیٹا ہوا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلنے لگی اور ناک کھلنے لگی تب اس پر حقیقت آشکارا ہو گی تو وہ کیا کرے گا ایک دم اچھل کر اٹھے گا کہ میں یہ کس گند میں پڑا ہوا ہوں، جائے گا اور فوراً غسل کر کے اس پامخانے کے تمام ترااثات سے خود کو پاک صاف کرے گا تب جا کر کہیں اسے چین آئے گا۔ تو شہزادے پر بھی اس بڑھیا کی حقیقت کھل چکی تھی اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر آ کر جب اس نے اپنی جوان اور بابا حیا، حسین و جمیل بیوی دیکھی تو مارے خوشی کے وہ بیہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔

واقعہ سے حاصل شدہ سبق

اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح شہزادے پر بڑھیانے جادو کا عمل کیا اور اسے اس کی جوان و حسین بیوی سے دور رکھ کر خود پر عاشق بنایا تھا تو بعینہ ہماری بھی یہی حالت ہے سارے انسان شہزادے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ہر شہزادے کے لیے حسین ترین جنت بنائی ہے لیکن اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ دنیا ایک بڑھیا ہے اس بڑھیانے اپنی محبت کا ہم پر ایسا جادو کرڈا لا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اصل جگہ جنت سے غافل ہیں اور اس بدشکل و بد صورت بڑھیا کو جادو کے زور سے حسین سمجھ کر اسی سے تعلق بنائے بیٹھے ہیں اب ہم پر سے اس جادو کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم حسین جنت کا واقعی حسن دیکھ سکیں اور اس مکار و بد کار و بد صورت بڑھیا دنیا کی حقیقت بھی ہم پر عیاں ہو۔ تو اس کے لئے مجاہدے ہیں اور مجالس ذکر ہیں اور نیک صحبت ہے کہ جن کی برکت سے ہم پر سے دنیا کا جادو ختم ہو جائے گا تو جب دنیا کی محبت کا جادو ہمارے دل پر سے ہٹ جائے گا تب پھر ہم دل کی آنکھ سے آخرت کا حسب دیکھ سکیں گے مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل کی آنکھ سے آخرت کی عزت و شوکت دیکھ لی تو پھر دنیا کی شوکت تمہیں مردار نظر آئے گی (اور تم اس سے خود کو بچانے کی کوشش شروع کر دو گے)

اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل سے محبت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کر لیں اور اس میں انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی، ترقیاں، راحیں اور لذتیں ہیں۔

دوست تین قسم کے ہوتے ہیں

- (۱) زبانی دوستی۔ صرف عارضی دوستی ہو، زبانی جمع خرچ ہو بس اس سے آگے کچھ بھی نہ ہو۔
- (۲) مقاد پرستی والی دوستی۔ بس یہ کہ اپنے مطلب کی غرض سے دوستی ہو، جہاں مقاد پرستی

میں کوئی رکاوٹ آئی دوستی بھی ختم ہو گئی۔

(۳) دلی دوستی (قائم رہے) اصل دوستی بھی ہے کہ خوشی میں غنی میں آسانی میں مشکل میں غرض یہ کہ ہر حال میں تعلق ہے اور پریشانیوں میں ہاتھ بٹائے اور اس کی وجہ سے یہ دوستی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ ہو۔ تو یہ دوستی اصل ہے۔ لیکن اس جگہ دوستی کے لیے کسی قدر علم کا ہونا بھی ضروری ہے ورنہ صرف ظاہردار یا اس اوقات نقصان دیتی ہیں۔

ایک دوست کی جہالت کا واقعہ

اس پر ایک جاہل دوست کا واقعہ یاد آیا واقعہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ بات عرض کی ہے کہ اصل دوستی دل کی دوستی ہے جو کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت بھی برقرار ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سچی دوستی کو اس شعر میں بیان فرمایا ہے:

دوست آں پاشد کہ گیرد دستِ دوست
در پریشانی و در حال در ماندگی

”دوست وہ ہوتا ہے کہ مشکل گھڑی اور پریشانی کے وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے۔“

اب واقعہ یہ ہے کہ دو دوست تھے جن کی دوستی بہر حال گھری تھی۔ خیراب یہ ہوا کہ ایک دن ان میں سے ایک کا کسی دوسرے آدمی سے جھگڑا ہو گیا وہ دونوں آپس میں دوست بگریبان ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے اب ان دوست صاحب نے یہ کیا کہ اپنے ہی دوست کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، پہلے پہل تو اس نے چھڑانے کی کوشش کی جب نہ چھڑا تو غصہ میں آکر کہنے لگا: ارے یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے وہ مجھے مسلسل مارے جا رہا ہے اور تم ہو کر نہ تو میری مدد کر رہے ہو بلکہ الثامیرے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں اے احمد مجھے چھوڑ دو خیراں نے پھر بھی نہ چھوڑا مارنے والے کا جب خوب جی مختندا ہوا تو اس نے سوچا کہ اب مجھے بھی بس کر دینا چاہئے یہ سوچا اور پھر وہ چلا گیا تب وہ اپنے احمد دوست کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: ہاں بھی اب بتاؤ یہ تم نے کیا

عقلمندی کی اور کیوں کی؟ وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ہوں آپ کا سچا اور مخلص دوست۔ اور مخلص اور پچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ مشکل گھری میں دوست کا ہاتھ پکڑے تو اب میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو مار رہا تھا تو آپ پر گویا ایک مشکل گھری تھی اور اس مشکل گھری میں میرا فرض یہ بتاتھا کہ میں آپ کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑلوں اس لیے میں تو گویا اپنا فرض ادا کر رہا تھا تمہیں اس پر غصہ کیوں آ رہا ہے۔

اب دیکھیں یہ ہے جہالت کا کرشمہ کہ شیخ سعدی کی بات کو اپنی کم عقلی سے اس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سچی دوستی کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے ورنہ تو پھر یہی حال ہوگا کہ جو بیان کیا گیا ہے۔ آپ علماء سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزاریں خود کتابیں دیکھ دیکھ کر اپنی سمجھ سے عمل نہ شروع کریں اس سے نقصان کا اندریشہ ہے علماء سے تحقیق کر لیا کریں۔

نمازوں کے جاہل کا واقعہ

اس پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا وہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھ رہتے تھے اور بڑے زوروں کے ساتھ ہل رہے تھے کبھی دائیں سے بائیں ملتے تھے اور کبھی آگے سے چیچھے کبھی اور پر نیچے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی کہ یہ میاں جی کیا کر رہے ہیں۔ خیر جب انہوں نے سلام پھیرا تو مقتدیوں نے ان سے کہا کہ آج تو آپ کی عجیب نماز دیکھی ہے ایسی نمازوں تو ہم نے کبھی کسی کی دیکھی ہی نہیں اس کا راز ہم جانتا چاہتے ہیں کہ آپ اس قدر رشدت سے کیوں ہل رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ ﷺ ہلکے نماز پڑھاتے تھے۔ ان لوگوں

۱. عن انس ﷺ ان رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخْفَى النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ

(ترجمہ) صحابی ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ لوگوں میں سے بلکی نماز پڑھانے والے تھے۔ روایہ مسلم

ج ۱ ص ۱۸۸ کتاب الصلوٰۃ: باب امر الائمه بتحفیض الصلوٰۃ فی تمام

کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ایسا تو ہم نے پہلی بار سنائے ہے اس لیے اگر مناسب ہو تو آپ کتاب بھی دکھاویں گے وہ خوشی سے کہنے لگا کیوں نہیں! ضرور دکھاؤں گا یہ کہا اور پھر کتاب لا کر انہیں دکھانے لگے۔ ان لوگوں نے جب کتاب دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا آپ ہلکی نماز پڑھایا کرتے تھے (ہلکا سے مراد یہ کہ زیادہ بھی نماز پڑھانے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے) تو اس آدمی نے ہاپر زبر پڑھنے کے بجائے زیر پڑھ دیا اور اس ذرا سی غلطی سے بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی۔ بہر حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے پوچھ کر زندگی گزاریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نیک کاموں میں بڑھنے کی کوشش کریں دنیا کی محبت کو کم کر دیں اور اچھی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت، مشائخ کی صحبت مسجد میں درس ہو رہا ہے۔ تبلیغ والے تعلیم کر رہے ہیں وغیرہ میں شرکت یہ سب اچھی مجالس ہیں۔ تجربہ کار علماء کرام سے ہر حال میں رابطہ رکھیں کیوں کہ حدیث میں آتا ہے (جس کا مفہوم ہے) کہ ”قیامت کے قریب لوگ جہلاء سے مسائل پوچھیں گے اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“ لے حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری ہیئت علماء کی سی ہو گی اور ہوں گے جاہل۔ وگرنہ موچی اور لوہار سے تو عام عموم مسائل نہیں پوچھتے۔ یاد رکھیں بعض لوگ کہیں سے چند مسائل سیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں (کہ بس جی اب ہم بھی عالم ہو گئے ہیں نہیں ایسی بات ہرگز نہیں) اس لیے آپ مسائل کے بارے میں تجربہ کار علماء سے رابطہ رکھیں۔

لَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ
النَّرَأَ إِنَّمَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَتَقْبِقْ عَالِمًا إِنَّمَا يَنْتَزِعُهُ النَّاسُ
رُؤْسَأُجْمَاهَا لَا فَسْلُولُ أَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّو أَوْ أَضْلُّو.

آخر جهہ مسلم ج ۲ ص ۳۳۰ کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه۔ وبخاری ج ۱ ص ۲۰
كتاب العلم باب كيف بقبض العلم.

ایک عالم نما جاہل کا واقعہ

ایک عالم ایک دفعہ دینی طالب علموں کو سبق پڑھار ہے تھے کہ اتنے میں ایک انتہائی وجیہہ شخص آیا اور آکر حضرت کے قریب بیٹھا۔ شکل و صورت، چہرے مہرے اور لباس و اطوار سے وہ بہت بڑے محقق عالم معلوم ہو رہے تھے۔ مولانا نے جب انہیں دیکھا تو ان کے ادب و احترام کے پیش نظر محتاط ہو کر بیٹھئے کہ کہیں غلطی کر جاؤں ورنہ شرمندگی ہو گی اور سبق بدستور جاری رکھا۔ وہ شخص کافی غور سے مدرس کے سامنے رکھی ہوئی کتاب کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے ایک حرف سے متعلق پوچھا کہ مولانا صاحب یہ واوہی ہے نا جس کا بڑا اسر ہے۔ بس پھر کیا تھا اس کا منہ کھولنا تھا کہ ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی سامنے آگئی کہ بس صرف ظاہری وجاہت علماء کی سی تھی باقی وہ غریب علم تو کیا وہ اور قاعدہ بغدادی سے بھی ناواقف تھا۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علماء سے ہی رابطہ رکھیں باقی غیر علماء جو ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں عابدو زاہد ہوتے ہیں آپ ادب و احترام ان کا بھی کریں لیکن مسائل صرف علماء سے ہی پوچھیں کسی غیر عالم عابد سے نہ پوچھیں خواہ وہ بزرگی میں بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو۔

اٹھائیسویں مجلس

ذکر اللہ کی اہمیت

خطبہ ابتدائیہ کے بعد

إِسْتَحْوَ ذَعْلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَنِ طَآلَاءٌ
حِزْبُ الشَّيْطَنِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (المجادلة: ۱۹)

”ان پر شیطان نے پورا سلط کر لیا ہے سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برپا ہونے والا ہے۔“ (بیان القرآن)

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقْيَضُ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (الزخرف: ۳۶)
”اور جو شخص اللہ کی نصیحت (یعنی قرآن) سے اندر ہا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔“ (بیان القرآن)

شیطان ذکر سے انسان کو غافل کرتا ہے

(ان مذکورہ آیات میں) اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے، تو شیطان نے (غلبہ پا کر) انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ اب یہ شیطانی گروہ ہے، خبردار! سنو! شیطانی گروہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے: ”شیطان انسان کے دل پر سو ڈر کرتا ہے جب یہ ذکر کرتا ہے تو شیطان وہ سو ڈر ہشادیتا ہے۔“ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس پر فرشتوں کی توجہات ہوتے ہیں (اور جب غافل

رہتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ لے آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اجر کمانے والا مجاہد کون ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، پھر آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ صالحین میں سب سے زیادہ اچھے کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو لوگ زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز، حج، حصدۃ اور زکوٰۃ سب کے بارے میں یہ سوال ہوا تو جواب سب کا وہی آیا (کہ کثرت سے ذکر کرنے والے سب سے زیادہ اچھے ہیں) یہ جوابات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے:

ذَهَبَ الدَّاِكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ ۝

”بِهِلَايَاٰنَ تَوْسَارِيٰ ذَكْرَ كَرْنَےِ وَالْمَلَئِ لَے گئے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ نے جواب میں فرمایا:

أَجَلُ

”جی ہاں!“ (واقعی بھلایاں سب ذکر کرنے والے لے گئے ہیں) چونکہ ذکر تمام اعمال کے لیے بمنزلہ روح کے ہے اس لیے روح والے اعمال زندہ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کامفہوم

۱. مَاءِمُ الْأَمْمِ لِقَلْبِهِ بَيْتَانٍ فِي أَحَدِهِمَا الْمَلَكُ وَفِي الْآخِرِ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ حَسَنٌ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ وَضَعَ الشَّيْطَانُ مِنْقَارَةً فِي قَلْبِهِ وَوَسَوَسَ لَهُ.

رواه حصن حصین علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ص ۲۹ و فی روایة الشیطان حاشیہ علی قلب ابن آدم فیا ذا ذکر اللہ حسن و اذا غفل و سوس .
آخر جمه مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۹ (۱۹۹) از بخاری تعلیقاً .

۲. عَنْ مُعَاذٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ۖ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ أَيُّ الْمُجَاهِدِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكْرُهُ فَقَالَ فَأَيُّ الصَّالِحِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ تَعَالَى ذَكْرُهُ الصَّلَاةُ وَالرَّزْكَةُ وَالصَّدَقَةُ، كُلُّ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ۖ أَجَلٌ

(رواه الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۳۰۰)

ہے: ”ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی سی ہے اور نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی سی ہے۔“ ۱

میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ

میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں انہی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہیں دور سے ان کی ملاقات کی غرض سے آرہا تھا خیر وہ شخص جو خواب رات کو دیکھتا دن میں وہی تعبیر وہی واقعہ سامنے آتا سفر کرتے کرتے جب وہ شخص پچھے قریب پہنچا تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میر گرامی نامی بزرگ فوت ہو چکے ہیں۔ آنکھ کھلی تو وہ صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ پہلے پہل تو اسے خیال آیا کہ بس اب مجھے واپس جانا چاہتے کیوں کہ یہاں آنے کا مقصد ہی ان کے ساتھ ملاقات تھی اب جب کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اب وہاں کیا کرنا ہے لیکن پھر اس نے سوچا کہ چلواب اتنا آہی گیا ہوں تھوڑا سافاصلہ اور رہتا ہے اس لیے جا کر دیکھ لیتا ہوں کہیں میرے خواب کا کوئی اور مطلب نہ ہو۔ خیر یہ سوچ کروہ پھر چلا اب جب وہ میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں پہنچا تو لوگوں سے ان کا حال پوچھا کہ کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ خیریت سے ہیں وہ شخص بڑا جیران ہوا بہر حال پھر وہ ان کے گھر آیا دیکھا تو واقعی خیریت سے تھے، ابتدائی علیک سلیک اور حال احوال کے بعد اس شخص نے دورانِ سفر دیکھا خواب سنایا۔ خواب سن کر میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانتے لگئے کہ اس رات کی وجہ سے میرے ذکر کا جو معمول تھا وہ رہ گیا تھا چونکہ حدیث میں ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ سے دی گئی ہے اس لیے پھر اس رات گویا عالم امثال کی دنیا میں، میں مردوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ۲

۱. حسن آبی موسیٰ قائل قالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثْلُ الَّذِي يَذْكُرُهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثْلُ الْعَجَى وَالْمَيِّتِ.

آخر جه البخاری ج ۱ ص ۹۳۸ کتاب الدعوات: باب فضل ذکر الله تعالى

۲. فوائد الفواد مجلس نمبر ۱۔

شرعی اصطلاحات خراب نہ کریں

قرآن کریم میں ذکر کے بارے میں آتا ہے:

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ (العنکبوت: ۳۵)

”اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔“ (بیان القرآن)

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی جہاد بھی ذکر ہے، تبلیغ بھی ذکر ہے، تعلیم بھی ذکر ہے، بس یہ سب ذکر ہیں (ٹھیک ہے کسی درجے میں بے شک یہ تمام اعمال ذکر بھی ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ ذکر کا الگ سے وجود ہی کوئی نہیں) یہ تو اصطلاحات کو ختم کر دینے کی کوشش ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کا معنی ہے ”دعا“، لیکن نماز سے دعا کوئی بھی مراد نہیں لیا کرتا (بلکہ ایک خاص عبادت مراد یلتے ہیں) تو اسی طرح ذکر کا بھی ایک اصطلاحی معنی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ذکر کے عنوان سے باقاعدہ ابواب باندھے گئے ہیں جیسے ”کِتَابُ الدَّعَوَاتِ وَالذِّكْرِ“ وغیرہ۔ (تواب اگر ذکر کا مطلب نماز، جہاد اور تبلیغ ہی ہوتا تو محمد شین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ بھی بھی ذکر کے لیے مستقل عنوان اور ابواب نہ لاتے بلکہ وہ نماز کے باب میں یہ بھی کہہ دیتے کہ نماز ذکر بھی ہے، ایسی وضاحتیں وہ دیگر تمام اعمال والے ابواب میں کرتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ تقریباً تمام ہی محمد شین نے اپنی کتابوں میں ذکر کے لیے ایک مستقل عنوان اور باب باندھا ہے جیسا کہ یہ بات اور پر بھی ذکر کر دی گئی) اس لیے اصطلاحات کو خراب نہ کریں۔ جہاد سے مراد قتال ہے اس اصطلاح کو بھی خراب نہ کریں۔ اصطلاحات کو نہ بگاڑیں (ورنہ تو سارے دین کا حلیہ ہی بدل جائے گا) قرآن کریم میں بھی (یہ تمام اصطلاحات) الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالْمَتَصَدِّقِينَ وَالْمَتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

وَالْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْخَفِظَتِ وَالذِّكْرِينَ اللَّهُ كَيْرًا وَالذِّكْرَاتِ أَعْدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب: ۳۵)

”بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرمان برداری کرنے والے مرد اور فرمان برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔“ (بیان القرآن)

اب آپ دیکھیں اس آیت میں دیگر اعمال کو ذکر کرنے کے بعد ”ذکر“ کو بھی ذکر فرمادیا ہے تو اب اگر ایسا ہوتا کہ باقی اعمال ہی ذکر ہوتے (بایس معنی کہ ذکر کا اپنا کوئی معنی نہ ہوتا) تب پھر اللہ تعالیٰ یوں نے فرماتے:

وَالذِّكْرِينَ وَالذِّكْرَاتِ (الاحزاب: ۳۵)

”اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔“ (بیان القرآن)

بلکہ اس کی جگہ معاذ اللہ یوں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان مندرجہ بالا اعمال کو کرنے والے مرد اور عورتیں سب ذاکر ہیں بس انہوں نے صدقہ کیا تو گویا ذکر بھی کیا۔ روزہ رکھا تو ذکر بھی ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے بلکہ دیگر اعمال کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ”ذکر“ کا تذکرہ اس بات پر دلیل ہے کہ دیگر اعمال مستقلہ کی طرح ذکر بذات خود بھی ایک مستقل عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی آپ ہی کی طرح پیغمبر تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون مصراً کو دعوت و تبلیغ

کرنے کے لیے بھیجا تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں روانہ فرمانا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں چند بدایات بتائیں انہی میں سے ایک ہدایت یہ تھی: اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

وَلَا تَنْبِيِفُ ذِكْرِي (ظہ: ۳۲)

”اور میری یادگاری میں سستی مت کرنا۔“ (بیان القرآن)

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیؓ نے نبی کریمؐ سے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتاویں کہ جس پر میں جنم جاؤں۔ آپؐ نے فرمایا: تمہاری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔“ ۱ ذکر کے موضوع پر میں نے مفصل کتاب لکھی ہے، اس کا نام ”ذکر اللہ کے فضائل و مسائل“ اس کتاب پر حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ ہم نے تقریباً بھی لکھی ہے۔ علماء کرام یہ کتاب ضروری پڑھیں۔ میں نے (اپنی) ہر کتاب میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ امت کو (فائدہ) ملے اور وہ افراط اور تفریط سے بچے۔

چند شیطانی وساوس

(۱) چالاک دشمن کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے قابو پاتے ہی ہتھیار چھین لیتا ہے شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ (المجادلة: ۱۹)

”ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے سواس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی۔“

(بیان القرآن)

۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَّارَ رَجُلًا أَقَالَ يَارُسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَاعِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىٰ فَأَنْجِبْنَىٰ بِشَيْءٍ أَنْشَبَتْ بِهِ قَالَ لَأَيْزَالُ لِسَانَكَ رَطْبَانِيْ ذِكْرَ اللَّهِ.

رواه ترمذی ج ۲ ص ۲۵۷ کتاب الدعوات باب ماجھافی فضل الذکر و ابن ماجھ ص ۲۶۸
کتاب الدعوات باب فضل الذکر.

تو شیطان غلبہ پاتے ہی انسان سے ذکر اللہ والا اسلحہ چھین لیتا ہے۔

(۲) شیطان کا ایک دوسرا حملہ یوں ہوتا ہے ہے کہ وہ یہ وسوسا لاتا ہے کہ جی آپ نے اب تک اتنا ذکر کیا، کیا ملا آپ کو، کیا فائدہ ہوا۔ بس کرواب رہنے دو فائدہ وغیرہ تو کوئی ہوتا نہیں۔ یہی سوال حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقدہ کو کسی نے خط میں بھیجا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں تقریباً پندرہ سال سے ذکر سے کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ خط پڑھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اتنے عرصے سے ذکر کی توفیق قومل رہی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ذکر کرنے سے بعض لوگوں کے ارادے اور نیتیں درست نہیں ہوتی ہیں کہ میں ذکر کرتے کرتے خلیفہ بنوں گا، پیر بنوں گا یہ گز بڑیں دل سے ختم کر دیں۔ ذکر سے مقصود بس اللہ کا تعلق ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہت ذکر کا حکم فرماتا ہے۔

مجنون کا ایک واقعہ

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجنون کہیں بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے لیلی لیلی لکھ رہا تھا۔ (لیلی وہاں تو تھی نہیں اس لیے) کسی نے آکر تو کا کہ تم لیلی لیلی کر رہے ہو اس کا تمہیں کیا فائدہ؟ مجنون کہنے لگا: لیلی کی جدائی کاغم جب ستاتا ہے تو میں اس کا نام پار پار لکھنا شروع کر دیتا ہوں کیوں کہ مجھے تو لیلی لیلی لکھنے میں بہر حال مزہ ہی آ رہا ہے تو میں اسے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مزے کے لیے لیلی لیلی لکھ رہا ہوں۔

ذکر بہر حال مفید ہی ہے

حضرت اقدس مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابر دیوبند کے سرخیل ہیں۔ اخیر عمر میں آنکھوں کی ظاہری بینائی چلی گئی تھی۔ اسی زمانے کی بات ہے (جبکہ آپ کی بینائی

چلی گئی تھی) کہ ایک مرتبہ اپنے خادم خاص حضرت اقدس مولانا بیگی کا نذر حلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ کمرے کا دروازہ بند کر دو (مجھے ایک بات کہنی ہے) انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کمرے میں سب اپنے ہی ساتھی ہیں۔ مولانا بیگی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اطمینان دلایا کہ جی حضرت اپنے ہی ساتھی ہیں غرض یہ کہ یہ بات حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے کئی مرتبہ پوچھی ہر مرتبہ یہی اطمینان دلایا گیا کہ جی اپنے ہی ساتھی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بھی کمرے میں نہیں ہے۔ جب حضرت کو اچھی طرح اطمینان ہوا تو فرمانے لگے: ”کہ بھی ذکر جتنی بھی غفلت سے ہواڑ کے بغیر نہیں رہتا۔“

ایک نادان صوفی کا واقعہ

ایک نادان صوفی تھا، بڑا ذکر کرتا ہے، کئی سال مسلسل ذکر کرتا ہے۔ ایک رات شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ کیا فائدہ کہ اللہ کی طرف سے لبیک نہیں ”کہ وہ اس کو قبول کرتا نہیں“ تو کیا فائدہ؟ وہ شکستہ دل اور مالیوں ہو کر معمولات چھوڑ کر سو گیا۔ رات کو خواب میں حضرت خضر عایہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو کہا یہ غفلت کیوں اس نے کہا کہ اللہ میاں کی طرف سے مجھے کوئی جواب تو مل نہیں رہا۔ بس تو میں نے ذکر چھوڑ دیا۔ تو حضرت خضر عایہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا ذکر قبول ہے اور اللہ کہنا ہی میرا لبیک ہے کہ پہلا ذکر قبول ہوا اور دوسرے کی توفیق ہوئی۔ جب اس نے سناتو دوبارہ ذکر شروع کر دیا۔

یہ حقیقت ہے کہ دوبارہ توفیق کامنا پچھلے عمل پر اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامت ہے جیسے کہ دنیاوی بادشاہ جب کسی کو ایک مرتبہ دوبار میں بلا تے ہیں تو اب اگر وہ بادشاہ اس آدمی کے دربار میں آنے سے خوش ہوا تو پھر بادشاہ دوبارہ سہمہ بارہ اور بار بار بلا تے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے بادشاہ نے دربار میں ان کا آنا ناپسند کیا اور بادشاہ نا راض ہوا تو پھر دوبارہ بادشاہ کبھی بھی اس شخص کو دربار میں نہیں بلا تے ہیں۔

شرات ذکر کی حفاظت کریں

جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کو اس کے شرات اور فوائد نصیب ہیں (چاہے محسوس ہوں یا نہ ہوں ہوتے بہر حال ضرور ہیں) اس لیے آپ ذکر کرتے رہیں ان شاء اللہ فائدہ ہو گا اور حلاوت ملے گی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس حلاوت ذکر کے فوائد کی حفاظت بھی کریں اسے ضائع ہونے سے محفوظ رکھیں۔ آنکھوں سے کانوں سے اور زبان سے اس نعمت کو ضائع نہ کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کندیشہ کمرے کو اس وقت تک شہنشاہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ کمرا ہر طرف سے بند نہ ہو۔ کہیں سے بھی اگر کمرہ لیک ہو گا تو شہنشہ ک تو ایک کندیشہ سے ملے گی لیکن جلد ہی اس لیک والی جگہ سے نکل کر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ شرات ذکر کی حفاظت کریں۔ گناہ سے پرہیز کریں تو آپ کو ذکر اللہ سے اطمینان اور شہنشہ ک نصیب ہو گی۔

انتیسو میں مجلس عید ضرور منا کیں لیکن تحقیق کے بعد

آج شاید آخری روزہ ہواں لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا اور چاند کی پوری شہادت نہیں ملی تو وہ عید کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو لوگ انہیں شیطان کا روزہ رکھنے والا کہتے ہیں۔ اور جن کا روزہ ہوتا ہے وہ عید منانے والوں سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان سب کی بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے (کیونکہ انہوں نے عید ایک دن پہلے منانی ہے) یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ (اس لیے ان باتوں سے اور طعنوں سے پچنا چاہئے)

بلاتحقیق بات نہ کریں

(بعض لوگ عید کے معاملے میں بڑے غیر محتاط ہوتے ہیں، بلا تحقیق بات پھیلاتے رہتے ہیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہئے) مجھے خود بھی یاد ہے ایک مرتبہ ہم اسی چاند کے مسئلے میں ایک اجلاس میں پیشے تھے ضلع ہنگو میں ایک شخص اجلاس میں آیا اور کہنے لگا کہ ٹی وی میں خبر آئی ہے کہ کل عید ہے (یعنی ٹی وی میں یہ خبر سنی ہے) میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستان کی ٹی وی نے خبر دی ہے اور کہنے والا شخص اگر درست کہتا ہے تو ٹی وی تو پھر اور لوگوں نے بھی دیکھا ہو گا اس لیے ہمیں اور لوگوں سے اس کی تصدیق بھی کر لینی چاہئے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک طرف سے دو آدمی اٹھے اور جلدی جلدی گاڑیاں دوڑا کر کر بونڈ شریف آئے انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کروادیا کہ ہنگو ضلع میں کل عید کا فیصلہ ہو گیا ہے لہذا کل عید ہے۔ اللہ کے بندو! (کیا یہی دیانت ہے؟) (ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے جیسے ٹھان رکھی ہو کہ بس کل تو ہم نے عید ہی منانی ہے چاند کھے یا نہ کھے) یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ (قرآن کریم میں آتا ہے)

إِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِهُوَ أَوْ لِعِبَادَةٍ

”جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تباشانار کھا تھا۔“

آپ اطمینان رکھیں پاکستان کے جس حصے میں بھی عید ہوگی یہاں (خانقاہ میں) ہمیں خبر ضرور پہنچے گی۔ کیونکہ یہاں سب جگہ کے لوگ موجود ہیں۔ عید تو ہمیں بھی اچھی لگتی ہے لیکن عید تحقیق کے ساتھ تو ہو۔ اس لیے یہاں ہم عید کریں گے پوری تحقیق کے بعد کریں گے، پہلے شرعی گواہوں کو جمع کریں گے (یوں نہیں کہ بس جی فلاں جگہ عید ہے تو بس یہاں بھی عید ہے یہ کونسا طریقہ ہے عید منانے کا؟) بہر حال آپ ایک دوسرے کے خلاف باشیں بھی نہ کریں۔ کسی کے روزے کو شیطان کا روزہ نہ کہیں کیوں کہ شیطان کا روزہ عبادت والا روزہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تو حسرت اور غم کی وجہ سے کچھ نہیں کھاتا۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ بات حورتوں میں بہت جلد پھیل جاتی ہے اب تو اس چیز میں مرد بھی ان کے شانہ بٹانہ ہیں مردوں میں بھی بات پھیل جاتی ہے۔
بہر حال بغیر تحقیق کے آپ بات نہ پھیلا کیں اس سے نقصان ہوتا ہے۔

تحقیق نہ کرنے کا نقصان

ہمارے یہاں کربونگہ کا واقعہ ہے کہ ایک سے کسی نے جھوٹ موت آکر کہہ دیا کہ تمہارے بھائی کو فلاں آدمی نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا یہ سننا تھا کہ انہوں نے بھی گن اٹھائی اور سید ہے جا کر اس آدمی کو قتل کر ڈالا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ اسی نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ خیر یہ اسے مار کر واپس گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا بھائی مل گیا۔ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ تو زندہ ہیں خیر تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ کسی نے جھوٹ کی بات پھیلا دی تھی۔ اب کیا کر سکتے تھے قتل تو کر دیا تھا خیر بڑی مشکل سے عرصہ دراز کے بعد بہت سے نقصانات اٹھا کر پھر کہیں مقتول کے ورثاء کو راضی کیا جر گے نے آٹھ لاکھ دیت ادا کرنے کو کہا جوانہوں نے دیے۔ اسی طرح جرگوں اور ادھر ادھر مال تقسیم کر کے میں لاکھ سے زیادہ رقم لگ گئی

اب آپ غور کریں اگر ذرا سی تحقیق کر لیتے تو قتل کے گناہ اور میں لاکھ کے نقصان سے بچت ہو جاتی اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی بغیر تحقیق کے نہ بات پھیلائیں نہ ہی اس طرح کی باتوں پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ طَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً (بنی اسرائیل: ۳۶)

”اور جس بات کی تجوہ کو تحقیق نہ ہوا س پر عمل درآمد مت کیا کر کیوں کہ کان اور آنکھ اور دل سے ان سب کی ہر شخص سے (قیامت کے دن) پوچھ ہوگی۔“ (بیان القرآن)

عقل سے کام لیا کریں۔ کسی کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈہ نہ کریں ایک مرتبہ کی بات ہے یہاں میرے خلاف کسی نے پروپیگنڈہ کیا تھا کہ یہ یاسین شریف کو نہیں مانتا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پروپیگنڈہ اور بہتان نہ کریں۔ بہتان کرنے والا فاسق اور مردود الشہادة ہے۔ یاد رکھیں بغیر تحقیق والی بات سے نقصان ہوتا ہے (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَسْتَوْأَنْ تُصِيبُونَ أَقْوَمَ أَجْهَالَهُ
فَتُضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ (الحجرات: ۲)

”اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کبھی کسی قوم کو نادافی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتا ناپڑے۔“ (بیان القرآن)
ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دینا یہ جھوٹ ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
کَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ!

”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے پھیلا لے (بغیر تحقیق کے)

علماء کرام حضرات سے درخواست

میری علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ حضرات تفسیری روایات کو بیان کرنے میں احتیاط کریں، احادیث احتیاط سے بیان کریں۔ عوام کو فکری طور پر بیمار نہ کریں۔ (کیونکہ) ان روایات (میں بعض بے سند اور بے اصل روایات بھی ہوتی ہیں جن) سے عام لوگوں کے عقائد بگزشت سکتے ہیں۔

نفس اور شیطان سے بھی بھی غافل نہ رہیں

یہاں (خانقاہ) سے جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں دیکھ کر بھاگے گا، ایسی بات نہیں ہے کیوں کہ شیطان بڑا خالم ہے۔ اس کو بہت طریقے آتے ہیں اسی طرح نفس سے بھی محتاط رہیں۔ مولانا نارومی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی مثال یوں دی ہے کہ نفس سانپ ہے ٹھنڈک کی وجہ سے سکڑ گیا ہے، اب گرمی لگے گی تو یہ ہشاش بشاش ہو جائے گا پھر تمہیں نقصان دے دے گا۔ اس لیے مستقل حفاظت اس میں ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے پاس رہے، تبلیغ والوں کے ساتھ رہے، مسجد کے اعمال میں رہے، اور ذکر کا اہتمام کریں۔ ان کاموں کا فائدہ یہ ہو گا کہ آدمی مستقل چلتا رہے گا اور بیٹری چارج رہے گی وگرنہ تو پھر دھکا لگانا پڑتا ہے۔